



ہم طہارت کیسے حاصل کریں؟

وضو، غسل اور طہارت کے دیگر اہم مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی

میں مدلل بیان

تالیف

ڈاکٹر سعید بن علی بن وہف القحطانی

ترجمہ

محمد عرفان محمد عمر المدنی


نظر ثانی

ابو اسامہ نیاز احمد انصاری عبد الباسط عبد العزیز المدنی

المكتب التعاونی للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السليل

ہاتف ۰۱۷۸۲۰۵۴۰ فاکس ۰۱۷۸۲۵۶۰۶

تحت اشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



فہرست مضامین

- ۱۶..... مقدمہ
- ۱۹..... پہلی فصل: طہارت کا مفہوم اور اس کے اقسام
- ۱۹..... ۱۔ طہارت کا مفہوم
- ۱۹..... ۲۔ طہارت کے اقسام
- ۱۹..... ☆ طہارت کی دو قسمیں ہیں:
- ۱۹..... ا۔ پہلی قسم: معنوی طہارت
- ۲۰..... ب۔ دوسری قسم: حسی طہارت
- ۲۱..... طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے:
- ۲۱..... ا۔ پانی سے طہارت
- ۲۱..... ب۔ پاک مٹی سے طہارت
- دوسری فصل: نجاست کے اقسام اور اس کے صاف کرنے کا بیان
- ۲۴..... ۱۔ انسان کے پیشاب اور پاخانہ کا حکم
- ۲۴..... ا۔ شیرخوار لڑکا اور لڑکی کے پیشاب کے صاف کرنے کا طریقہ
- ۲۵..... ب۔ گندگی آلود جوتی کے صاف کرنے کا طریقہ

- ج۔ نجاست آلود عورت کے پلو کا صاف کرنے کا طریقہ..... ۲۵
- د۔ گندگی آلود فرش اور زمین صاف کرنے کا طریقہ..... ۲۵
- ۲۔ ماہواری کے خون کا صاف کرنے کا طریقہ..... ۲۶
- ۳۔ کتا کا برتن میں منہ ڈالنے کے بعد برتن کی صفائی کا طریقہ..... ۲۷
- ☆ جانوروں کے جھوٹا کا حکم (حاشیہ)..... ۲۷
- ۴۔ بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور مردار کا بیان..... ۲۸
- ☆ مردہ ماکول اللحم کے چمڑے کے دباغت کا بیان..... ۲۹
- ☆ کیا غیر ماکول اللحم جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو سکتا ہے؟ حاشیہ..... ۲۹
- ۵۔ ودی کی صفائی کا طریقہ..... ۳۰
- ۶۔ ندی کی صفائی کا طریقہ..... ۳۰
- ۷۔ مٹی کی صفائی کا طریقہ..... ۳۱
- ۸۔ جلالہ (نجاست خور جانور) کے گوشت کو کب کھایا جائے؟..... ۳۲
- ۹۔ چوبہا گھی وغیرہ میں گر جائے، تو کیسے صاف کیا جائے..... ۳۲
- ۱۰۔ غیر ماکول اللحم جانور کے گوبر اور پیشاب کی نجاست کا حکم..... ۳۲
- ۱۱۔ موران نما زارگر بدن یا کپڑے پر نجاست کا علم ہو تو کیسے صاف کیا..... ۳۵
- ۱۲۔ شراب کا حکم..... ۳۷
- ۱۳۔ سونا اور چاندی کو چھوڑ کر بقیہ سارے برتن مباح ہیں..... ۳۹
- ☆ کافروں کے برتن کا حکم..... ۳۹

۱۴۔ بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے نجس کہا ہے..... ۴۰

تیسری فصل: فطری سنتیں:..... ۴۰

۱: ختنہ کرنا..... ۴۲

۲: موئے زیر ناف صاف کرنا..... ۴۲

۳: بغل کے بال صاف کرنا..... ۴۳

۴: ناخن تراشنا..... ۴۳

۵: مونچھ کترنا..... ۴۳

۶: داڑھی بڑھانا..... ۴۳

۷: مسواک کرنا :..... ۴۵

☆ ہر وقت مسواک کرنا مشروع ہے لیکن مندرجہ ذیل اوقات میں زیادہ موکد ہے:

ب۔ ہر وضو کے وقت..... ۴۶

ج۔ ہر نماز کے وقت..... ۴۶

د۔ گھر میں داخل ہوتے وقت..... ۴۶

ھ۔ دانت اور منہ کی صفائی کی ضرورت کے وقت..... ۴۷

ز۔ مسجد کے لئے گھر سے نکلنے وقت..... ۴۸

۸۔ براجم (انگلی کے پوروں) کا دھلنا..... ۴۹

- ۹۔ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا..... ۴۹
- ۱۰۔ استنجاء کرنا۔ یا استنجاء کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا..... ۴۹
- ☆ فطرت کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں: قلبی، اور عملی..... ۵۰
- چوتھی فصل: قضائے حاجت کے آداب:..... ۵۱
- ۱۔ قضائے حاجت کے وقت اللہ کی ذکر والی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھے..... ۵۱
- ۲۔ قضائے حاجت کے وقت لوگوں کی نظروں سے دور کسی باپردہ جگہ کی تلاش کرے..... ۵۱
- ۳۔ قضائے حاجت کی دعا پڑھے، اور حمام میں بایاں قدم پہلے رکھے..... ۵۲
- ۴۔ زمین کے قریب ہوتے ہوئے کپڑے کو سینے..... ۵۲
- ۵۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے..... ۵۲
- ۶۔ راستہ، سایہ تلے، اور پانی کے گھاٹ پر قضائے حاجت نہ کرے..... ۵۲
- ۷۔ قضائے حاجت کے لئے نرم اور نشیبی جگہ کی تلاش کرے!..... ۵۵
- ۸۔ قضائے حاجت کے وقت گفتگو نہ کرے..... ۵۵
- ۹۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے..... ۵۵
- ۱۰۔ حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے..... ۵۷
- ۱۱۔ غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے..... ۵۷
- ۱۲۔ داہنے ہاتھ سے نہ شرمگاہ کو چھوئے اور نہ ہی اس سے استنجاء کرے..... ۵۷
- ۱۳۔ بڈی اور لید سے استنجاء نہ کرے..... ۵۸

- ۱۴۔ تین پتھر سے کم سے استنجاء نہ کرے..... ۵۸
- ۱۵۔ نیند سے بیداری کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھلنے سے پہلے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے..... ۵۹
- ۱۶۔ سبیلین سے گندگی کی نظافت کی تین حالتیں ہیں..... ۵۹
- ۱۔ پہلے ڈھیلا استعمال کرے، پھر پانی استعمال کرے..... ۶۰
- ب۔ صرف پانی استعمال کرے..... ۶۰
- ج۔ صرف ڈھیلا استعمال کرے..... ۶۰
- ۱۷۔ پتھر یا ڈھیلا استعمال کرنے کی صورت میں طاق پر ختم کرے!..... ۶۰
- ۱۸۔ استنجاء کرنے کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رگڑے پھر پانی سے دھلے..... ۶۱
- ۱۹۔ استنجاء کرنے کے بعد اپنے ازار پر پانی کے چھینٹے مارے!..... ۶۱
- ۲۰۔ بقدر ضرورت حمام میں ٹھہرے..... ۶۲
- ۲۱۔ مستحب ہے کہ مرد وزن ایک دوسرے کے طہارت سے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کریں..... ۶۲
- ۲۲۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم نکالے!..... ۶۲
- پانچویں فصل وضو کا بیان:..... ۶۴
- ۱۔ کن امور کے لئے وضو ضروری ہے:..... ۶۴

- ۶۴..... ا۔ نماز.....
- ۶۵..... ب۔ بیت اللہ کا طواف.....
- ۶۶..... ج۔ صحف کا چھونا.....
- ۶۶..... ۲۔ وضو کی فضیلت.....
- ۶۹..... ۳۔ کامل وضو کرنے کا طریقہ.....
- ۷۴..... ۴۔ وضو کے فرائض اور ارکان.....
- ۷۴..... ا۔ چہرہ کا دھلنا.....
- ۷۵..... ب۔ دونوں ہاتھوں کا دھلنا.....
- ۷۶..... ج۔ پورے سر کا مسح کرنا.....
- ۷۸..... د۔ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھلنا.....
- ۷۹..... ہ۔ تمام اعضاء کو ترتیب سے دھلنا.....
- ۷۹..... و۔ مولات (پے در پے اعضاء کا دھلنا).....
- ۸۰..... ۵۔ وضو کے شرائط.....
- ۸۱..... ۶۔ وضو کی سنتیں.....
- ۸۱..... ا۔ مسواک کرنا.....
- ۸۱..... ب۔ وضو کے شروع میں ہتھیلیوں کو تین بار دھلنا.....
- ۸۱..... ج۔ اعضاءے وضو کا ملنا.....

- ۸۲..... د۔ اعضاءِ وضو کو تین تین بار دھلانا
- ۸۲..... ہ۔ وضو کے بعد دعا پڑھنا
- ۸۲..... و۔ تحیۃ الوضو نماز پڑھنا
- ۸۳..... ز۔ وضو میں پانی کے اسراف سے بچنا
- ۸۵..... ے۔ وضو توڑنے والی چیزیں
- ۸۵..... ا۔ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ سے نکلنے والی چیزیں
- ب۔ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کے علاوہ جسم کے دیگر حصہ سے زیادہ مقدار میں نجاست کا نکلنا
- ۸۵..... ج۔ عقل کا زائل ہونا
- ۸۷..... د۔ بلا پردہ شرمگاہ کا چھونا
- ۸۸..... ہ۔ اونٹ کا گوشت کھانا
- ۸۹..... د۔ اسلام سے مرتد ہونا
- ۹۰..... جن امور کے لئے وضو کرنا مستحب ہے
- ۹۰..... ا۔ اللہ کے ذکر کے لئے
- ۹۰..... ب۔ سوتے وقت
- ۹۰..... ج۔ وضو ٹوٹنے کے بعد
- ۹۱..... د۔ ہر نماز کے وقت

- ۹۱۔ مردہ اٹھانے کے بعد.....
- ۹۲۔ قے ہونے کے بعد.....
- ۹۲۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد.....
- ۹۲۔ جنابت کے بعد جب کھانا کھانے کا ارادہ کرے.....
- ۹۳۔ بیوی سے جب دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو.....
- ۹۳۔ جنبی جب بلا غسل سونا چاہے.....
- ۹۵۔ چھٹی فصل۔ موزہ، پگڑی، پٹی پر مسح کرنا.....
- ۹۶۔ اُم موزہ پر مسح کرنے کا حکم.....
- ۹۷۔ ب۔ موزہ پر مسح کرنے کی شرطیں.....
- ج۔ موزہ پر مسح کو باطل کرنے والے امور.....
- ۱۰۲۔ چرمی اور غیر چرمی موزہ پر مسح کرنے کا طریقہ.....
- ۱۰۴۔ پٹی پر مسح کرنے کا حکم.....
- ۱۰۵۔ پٹی اور موزہ پر مسح کرنے میں فرق.....
- ۱۰۶۔ پٹی پر مسح کرنے کا طریقہ.....
- ۱۰۷۔ ساتویں فصل: غسل کے بیان میں.....
- ۱۰۷۔ غسل کو واجب کرنے والے امور.....

- ۱۔ تیزی سے لذت کے ساتھ منی کا نکلنا.....
- ۲۔ مردوزن کے ختنہ کا باہم ملنا.....
- ۳۔ کافر کا مسلمان ہونا.....
- ۴۔ مسلمان کی موت.....
- ۵۔ ماہواری.....
- ۶۔ نفاس.....
- ب۔ جنبی کو پانچ چیزوں سے باز رہنا چاہئے:
- ۱۔ نماز پڑھنا.....
- ۲۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا.....
- ۳۔ قرآن کا چھونا.....
- ۴۔ قرآن کا پڑھنا.....
- ۵۔ مسجد میں ٹھہرنا.....
- ج۔ غسل کے شرائط:
- د۔ غسل کرنے کا طریقہ.....
- ھ۔ مسنون غسل.....
- ۱۔ نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا.....
- ۲۔ احرام باندھنے کے لئے غسل کرنا.....

- ۳۔ مکہ میں داخل ہونے کے لئے غسل کرنا..... ۱۲۹
- ۴۔ ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا..... ۱۲۹
- ۵۔ میت کو غسل دینے بعد غسل کرنا..... ۱۲۹
- ۶۔ مشرک کو دفن کرنے بعد غسل کرنا..... ۱۳۱
- ۷۔ مستحاضہ عورت کا ہر نماز یا دو نمازوں اکٹھا پڑھنے کے لئے غسل کرنا..... ۱۳۱
- ۸۔ بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد غسل کرنا..... ۱۳۲
- ۹۔ سیٹنگی لگوانے کے بعد غسل کرنا..... ۱۳۳
- ۱۰۔ اسلام قبول کرنے بعد غسل کرنا..... ۱۳۲
- ۱۱۔ عیدین کی نماز کے لئے غسل کرنا..... ۱۳۲
- ۱۲۔ یوم عرفہ کو غسل کرنا..... ۱۳۵
- آٹھویں فصل: تیمم کا بیان:..... ۱۳۶
- ۱۔ تیمم کا حکم..... ۱۳۶
- ۲۔ کب تیمم کرنا جائز ہے؟..... ۱۳۸
- ا۔ پانی نہ ملے..... ۱۳۸
- ب۔ حسب ضرورت پانی نہ ملے..... ۱۳۹
- ج۔ پانی کافی ٹھنڈا ہو اور نقصان کا خطرہ ہو..... ۱۳۹

- ۱۴۰..... د۔ بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو۔
- ۱۴۱..... ھ۔ پانی تک پہنچنے کے لئے دشمن کا خوف ہو۔
- ۱۴۲..... و۔ پیاس اور موت کا خطرہ ہو۔
- ۱۴۲..... تیمم کرنے کا طریقہ۔
- ۱۴۳..... ۴۔ نواقض تیمم :
- ۱۴۳..... ا۔ وضو کو توڑنے اور غسل کو واجب کرنے والے امور سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔
- ۱۴۳..... ب۔ پانی کا دستیاب ہونا، اور اس کے استعمال کرنے پر قدرت پانا۔
- ۱۴۵..... ۵۔ جسے پانی اور مٹی دونوں دستیاب نہ ہو وہ کیا کرے۔
- ۱۴۶..... ۶۔ تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد جب وقت میں پانی دستیاب ہو جائے۔
- ۱۴۸..... نوویں فصل: حیض، نفاس، استحاضہ، اور سلس البول کا بیان۔
- ۱۴۸..... ۱۔ حیض کی تعریف :
- ۱۴۸..... ۲۔ دم ماہواری کی خلقت کی حکمت۔
- ۱۴۸..... ۳۔ ماہواری کے خون کا رنگ۔
- ۱۵۱..... ۴۔ ماہواری شروع ہونے کی عمر۔
- ۱۵۲..... ۵۔ ماہواری کی مدت۔
- ۱۵۳..... ۶۔ ماہواری کے احکام :

- ۱۵۴..... ا۔ حائضہ عورت کو کن چیزوں سے باز رہنا چاہئے؟
- ۱۵۴..... ۱۔ نماز.....
- ۱۵۹..... ۲۔ روزہ.....
- ۱۶۰..... ۳۔ بیت اللہ شریف کا طواف.....
- ۱۶۱..... ۴۔ مصحف کا چھونا.....
- ۱۶۳..... ۵۔ مسجد میں ٹھہرنا.....
- ۱۶۴..... ۶۔ ہم بستری کرنا.....
- ۱۶۶..... ۷۔ طلاق دینا.....
- ۱۶۷..... ۸۔ عدت مہینہ کے اعتبار سے شمار کرنا.....
- ۱۶۹..... ب۔ نیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟
- ۱۶۹..... ۱۔ حائضہ کے ساتھ سونا.....
- ۱۷۱..... ۲۔ حائضہ کے ساتھ کھانا پینا.....
- ۱۷۱..... ۳۔ حائضہ عورت کا عید گاہ جانا.....
- ۱۷۲..... ۴۔ حائضہ عورت کے گود میں تلاوت کرنا.....
- ۱۷۲..... ۵۔ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر دھلانا.....
- ۶۔ سابقہ ممنوع عبادتوں کے علاوہ حائضہ عورت ساری عبادتیں کر سکتی ہے.....

۱۳..... ج۔ طہارت کی علامت

۱۔ قصہ بیضاء.....

۲۔ خشکی.....

☆ نفاس.....

۱: نفاس کسے کہتے ہیں.....

۲۔ حیض و نفاس کے درمیان فرق.....

۳۔ نفاس کے احکام حیض کے احکام کی طرح ہیں سوائے چند امور کے.....

ا۔ عدت.....

ب۔ مدت ایلاء.....

ج۔ بلوغت.....

د۔ حیض متعین اوقات میں آتا ہے.....

۳۔ نفاس کی کم سے کم اور زیادہ زیادہ مدت.....

استحاضہ.....

۱۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟.....

۲۔ حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق.....

۳۔ استحاضہ میں مبتلا عورت کی تین حالت ہے.....

- ا۔ پہلی حالت: مدت حیض اس کے نزدیک معروف ہو..... ۱۷۸
- ب۔ دوسری حالت: مدت حیض معلوم نہ ہو لیکن حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کر سکتی ہو..... ۱۸۰
- ج۔ تیسری حالت: نہ مدت حیض معلوم ہو اور نہ ہی حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کر سکتی ہو..... ۱۸۱
- ۲۔ استحاضہ کے احکام..... ۱۸۳
- ۱۔ انقطاع حیض کے بعد مستحاضہ پر غسل کرنا واجب ہے..... ۱۸۳
- ۲۔ مستحاضہ پر ہر نماز کے وقت وضو کرنا واجب ہے..... ۱۸۳
- ۳۔ مستحاضہ عورت وضو سے پہلے شرمگاہ دھل کر احتیاطاً کپڑا وغیرہ باندھ لے..... ۱۸۳
- ۴۔ مستحاضہ عورت کے لئے جمع صوری جائز ہے..... ۱۸۵
- ۵۔ دوران حمل نکلنے والا خون، استحاضہ کا خون ہوگا یا حیض کا؟..... ۱۸۶
- ☆ سلس البول کے احکام..... ۱۸۷
- ☆ سلس البول میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے..... ۱۸۷
- ☆ مسلسل خروج ہوا میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے..... ۱۸۷
- ☆ مسلسل خروج مذی میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے..... ۱۸۷

مقدمہ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده
 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
 عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم
 الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد:

تمام تعریف اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہم صرف اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی
 سے مدد اور بخشش کے طلبگار ہیں، ہم اپنے نفسوں، اور خراب اعمال کی برائیوں سے
 اس کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور
 جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
 کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ
 آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور تا قیامت آنے والے آپ کے تمام پیروکاروں
 پر درود و سلام نازل فرمائے۔ (آمین)

زیر نظر کتاب طہارت جو کی نماز کی کنجی اور نصف ایمان ہے، کی فضیلت اس کے
 مفہوم، اور اس کے احکام کے متعلق ہے، اس کتاب میں، میں نے ان تمام مسائل کو

قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے، جو ایک مسلمان کو طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے میں پیش آسکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو کچھ صحیح اور درست ہے وہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی غلطی اور خامی ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس سے بری ہیں۔ (۱)

کتاب میں بیان کردہ اختلافی مسائل میں جہاں بھی ہمیں کوئی اشکال ہو اسے میں نے امام علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اور آپ کی ترجیحات کو داخل کتاب کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نوازش کا بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے (۲)

میں نے اس کتاب میں پیش کردہ معلومات کو درج ذیل نو فصلوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر فصل کے ضمن میں اس سے متعلق مسائل کو عموماً نمبر وار بیان کیا ہے۔

پہلی فصل: طہارت کا مفہوم اور اس کی اقسام

دوسری فصل: اقسام نجاست اور ان کی صفائی اور ازالہ کے واجب ہونے کے کا بیان۔

تیسری فصل: فطرت کی سنتیں اور اس کی اقسام۔

(۱) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ دعا کی ہے، دیکھئے سنن ابی داؤد کتاب الزکاح باب فیمن تزوج ولم یسم صداق احمی مات (۲۱۱۶) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح سنن

ابی داؤد ۲/۳۹۷

(۲) کبھی ملاقات اور سوالات کے ذریعہ آپ کی ترجیحات کو معلوم کیا، اور کبھی آپ کی تالیفات کے ذریعہ۔

چوتھی فصل: قضائے حاجت کے آداب.

پانچویں فصل: وضوء کا بیان.

چھٹی فصل: موزہ، پگڑی، پٹی پر مسح کرنے کا بیان.

ساتویں فصل: غسل کا بیان.

آٹھویں فصل: تیمم کا بیان.

نویں فصل: حیض، نفاس، استحاضہ، سلس البول کا بیان.

ہم اللہ رب العالمین سے اس کے اسماء حسنی اور بہترین و اعلیٰ صفات کے وسیلہ سے دعاء گو ہیں، کہ میری اس متواضع کوشش میں برکت عطا فرمائے، اسے خالص اپنی رضا اور خوشنودی کے لئے بنائے، اسے مولف، قاری، ناشر سب کے لئے حصول جنت کا ذریعہ بنائے، اور جن ہاتھوں میں بھی یہ کتاب جائے اس کے لئے نفع بخش بنائے، بیشک وہی بہترین سوال کرنے کے لائق، اور سب سے زیادہ امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی میرے لئے کافی اور میرا بہترین محافظ ہے، ہر طرح کی تعریف میرے اللہ کے لئے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، اور کامل درود و سلام ہو قائد بشریت ہمارے نبی محمد ﷺ، آپ کے آل و اصحاب اور تاقیامت آپ کے تمام پیروکاروں پر.

مؤلف

پہلی فصل طہارت کا مفہوم

طہارت کا لغوی مفہوم: عربی زبان میں ظاہری اور باطنی گندگی سے صفائی و پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔

طہارت کا شرعی مفہوم: مباح پانی یا مٹی سے حدث (وضوء یا غسل کو واجب کرنے والے امور) کو رفع کرنا، اور نجاست و پلیدیگی کو زائل کرنا شرعا طہارت کہتے ہیں۔

یعنی طہارت بدن وغیرہ سے اس وصف کو زائل کرنے کو کہتے ہیں جو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لئے مانع ہو۔ (۱)

طہارت کے اقسام

طہارت کی دو قسمیں ہیں: معنوی اور حسی:

پہلی قسم معنوی طہارت: معنوی طہارت سے مقصود توحید اور اعمال صالحہ کے ذریعہ شرک اور معاصی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنی ہے، معنوی طہارت، حسی طہارت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے بلکہ معنوی طہارت کے بغیر، حسی طہارت بے سود ہے، یہی وجہ ہے کہ مشرک ظاہری صفائی و ستھرائی کے باوجود شرک کی وجہ سے نجس ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿انما المشرکون نجس﴾ (۲) بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں۔

(۱) دیکھیے مغنی لابن قدامہ ۱۲/۱ اور توضیح لأحكام من بلوغ المرام لعبد اللہ البسام ۸۷

(۲) سورہ توبہ: ۲۸

جبکہ ایک مومن حسی پلیدگی کے باوجود معنوی طور پر پاک اور صاف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے (ان المومن لا ینجس) (۱) مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔

بنا بریں ہر مکلف کو چاہئے کہ پہلے اپنے دل کو شرک، شک کی غلاظتوں سے اخلاص، توحید اور یقین کے ذریعہ پاک کرے، اور نفس کو گناہوں کی پلیدگی، اور حسد، کینہ، خیانت، فریب، گھمنڈ، تکبر، خود پسندی اور ریا کاری جیسے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے صاف کرے۔

یہی باطنی طہارت ایمان کا نصف اول ہے اور نصف ثانی حسی طہارت ہے۔ دوسری قسم حسی طہارت: اس سے مراد حدث (ناپاکی) اور نجاستوں سے صاف رہنا ہے، حسی طہارت ایمان کا نصف ثانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے (الطہور شرط الایمان) (۲) پاکی آدھا ایمان ہے۔

حسی طہارت پانی کے ذریعہ وضوء اور غسل کر کے حاصل کی جاتی ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور کپڑا بدن اور جائے نماز سے نجاست کو زائل کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ (۳)

(۱) بخاری (۲۸۴) کتاب الغسل باب عرف الجنب وأن المسلم لا ینجس۔

مسلم (۳۷۱) کتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ینجس۔

(۲) مسلم (۲۲۳) کتاب الطهارة باب فضل الوضوء۔

(۳) دیکھئے الشرح للممتع لابن عثيمين ۱/۱۹۱

طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے

۱۔ پانی: طہارت حاصل کرنے کے لئے پانی بنیادی ذریعہ ہے، خواہ وہ پانی بارانی ہو یا زمین سے نکلا ہو، اگر وہ اپنی اصلی خلقت میں باقی ہے تو پاک ہے، اسے حدیث (ناپاکی) کو رفع اور نجاست کو زائل کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، اسی طریقہ سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف پاک چیز کے ملنے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے (الماء طہور لا ینجسہ شیء) (۱) پانی پاک کرنے والا ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے۔

چشمہ، کنواں، ندی، وادی، سمندر پگھلا ہوا برف ہر طرح کے پانی کا یہی حکم ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے سمندری پانی کے بارے میں فرمایا: (هو الطہور ماؤذہ الحل میتہ) (۲) اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔

آب زمزم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (أن رسول اللہ

ﷺ دعا بسجل من زمزم فشرب منه وتوضأ) (۳)

(۱) صحیح صحیح سنن ابوداؤد (۱۶۷) کتاب الطہارۃ باب ما حاء فی شرب ماء الترمذی ح (۶۶) والسنائی ح (۵۲۳)

(۲) صحیح صحیح سنن ابوداؤد (۸۳۱) کتاب الطہارۃ باب الوضوء، ماء البحر والترمذی (۶۹) والسنائی ح (۳۳۱) ابن ماجہ ح (۳۸۶)

(۳) حمد (روائد المسند) ۶۷/۱ شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے ملاحظہ ہو: ادواء الغلیل ۱/۴۵ ح (۱۱۳)

آپ ﷺ ایک ڈول آب زمزم منگوایا جس سے آپ نے کچھ پیا اور کچھ سے وضوء کیا۔

پانی میں اگر نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ: رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدل جائے تو بالا جماع نجس ہے، اسے طہارت کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

۲۔ پاک مٹی: اگر پانی کا استعمال تمام اعضائے طہارت یا چند اعضائے طہارت کے لئے ممکن نہ ہو، خواہ پانی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا پانی استعمال کرنے سے نقصان کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، بنا بریں تیمم کے ذریعہ طہارت حاصل کیا جائے گا۔ (۲)

(البتہ اگر کچھ پانی میسر ہے اور اس کے استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جتنے اعضاء کی پانی سے طہارت ممکن ہے اتنے کی پانی سے طہارت حاصل کی جائے گی اور بقیہ کے لئے تیمم کیا جائے گا)

(۱) دیکھئے فتاویٰ اس نیمیہ ۳۰/۲۱ اور سئل اسلام ۲۲/۱

(۲) دیکھئے منہاج السالکین للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدی ص (۱۳)

دوسری فصل نجاست کے اقسام اور انکے صاف کرنے کا طریقہ

نجاست: اس گندگی اور پلید کو کہتے ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنے کے لئے کہا گیا ہے، اور اگر کپڑے اور بدن وغیرہ پر لگ جائے تو اس کا صاف کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَيَا بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ مِّنَ السُّبُلِ فَاصْطَلُوا لَعَلَّكُمْ أَتَمُّوْنَ﴾ (۱) اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کر۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (۲)

[البقرة ۲۲۲] وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہ دیجئے یہ گندگی ہے لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں (یعنی غسل کر لیں) تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

(۱) سورہ مدثر آیت ۴

(۲) سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

ب۔ گندگی آلود جوتی کی صفائی:

اگر جوتی میں گندگی لگ جائے، تو اسے زمین پر رگڑ کر صاف کر لینا چاہئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا وطىء أحدكم بنبعلیه الاذى فان التراب له طهور) (۱) جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی میں گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔

ج۔ گندگی آلود عورت کے پلو کی صفائی:

عورت کا پلو اگر لمبا ہے اور وہ گندی جگہ پر چلتی ہے جس کی وجہ سے کچھ گندگی اس کے پلو میں لگ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ صاف مٹی پر چلتی ہے جس سے وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے پلو کے بارے میں فرمایا (یطهر ما بعدہ) (۲) یعنی گندگی کے بعد آنے والی مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔

د۔ گندگی آلود زمین اور فرش کی صفائی:

اگر زمین یا فرش پر پیشاب یا پاخانہ لگ جائے تو پہلے پاخانہ کو اس جگہ سے ختم کرنا چاہئے پھر اس جگہ پانی بہایا جائے۔ اور اگر پیشاب ہے تو اس پر بکثرت پانی ڈالنا چاہئے حتیٰ کہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔

(۱) صحیح صحیح سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب فی الاذی یصب النعل ح (۲۸۵)

(۲) صحیح صحیح سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب فی الاذی یصب الذمیل ح (۲۸۲) ترمذی ح (۱۴۲)

جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی کے بارے میں فرمایا (دعوہ وأہر یقوا علی بولہ سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین) (۱) چھوڑ دو (یعنی پیشاب مکمل کر لینے دو) اور اس کے پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی بہا دو تمہیں لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے سختی کرنے والا نہیں۔

قضائے حاجت کے بعد پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو پانی یا ڈھیلا سے صاف کیا جائے گا جیسا کہ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آرہی ہے

۲۔ ماہواری کے خون کا صاف کرنے کا طریقہ:

ماہواری کا خون نجس ہے، حیض آلود کپڑے کو کافی اہتمام کے ساتھ مل کر صاف کرنا چاہئے جیسا کہ آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے (تحتہ ثمر نقرصہ بالماء ثمر تنضحہ ثمر تصلی فیہ) (۲) عورت پہلے اسے کھرچ ڈالے پھر اس پر پانی ڈال کر (اپنی انگلیوں سے) مل کر صاف کرے پھر اس پر مزید پانی بہائے، پھر اسے پہن کر نماز پڑھے۔

(۱) بخاری، کتاب الوضوء، باب صب الماء علی البول فی المسجد ح (۲۲۰) ومسلم، کتاب الطہارۃ، باب وجوب

غسل البول... ح (۲۸۴)

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب غسل الدر ح (۲۲۷) ومسلم، کتاب الطہارۃ، باب نجاس الدر... ح (۲۹۱)

۳۔ کتے کا برتن میں منہ ڈالنے سے برتن کے صاف کرنے کا طریقہ: (۲)

کتا نجس ہے، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن نجس ہو جاتا ہے، اسے

سات بار دھلنا چاہئے جس میں سے پہلی (یا آخری) بار مٹی سے ہو، اللہ کے رسول ﷺ نے

(۱) جانور اور درندوں کا جموٹا کھانا پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں تفصیل ہے، ہاں طور کہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں: پاک اور ناپاک، اور ناپاک جانور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو بالاقفاق نجس مین ہیں: اور یہ کتا اور خنزیر ہیں، نجس مین جانور سے سب کچھ نکلنے والا نجس ہے۔ نجس جانوروں کی دوسری قسم مختلف فیہ ہے، جیسے گدھا، خچر، دندہ پرندہ جیسے باز، جیل اور درندہ جانور جیسے بھڑیا، پیتا، شیر وغیرہ اس دوسری قسم نجس جانوروں کا جموٹا اکثر اہل علم کے نزدیک پاک ہے کیونکہ (چشمہ، تالاب، حوض وغیرہ پر یہ جانور آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے) عموماً ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ (دیکھئے فتاویٰ دائمی کمیٹی برائے فتاویٰ ۳۸۷/۵، مفتی ۶۸۱/۱ اور شرح صحیح ۳۹۶/۱) دوسری قسم پاک جانوروں کی ہے، ان کا جموٹا اور پسینہ پاک ہے، ان پاک جانوروں کی تین قسمیں ہیں، (۱) انسان، یہ بذات خود پاک ہے اور اس کا جموٹا بھی پاک ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: موس نجس نہیں ہوتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تیرا خیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے (۲) وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ بذات خود پاک ہیں اور ان کا جموٹا بھی بالاجماع پاک ہے، سوائے جلالہ (نجاست خور ماکول اللحم جانور) کے اس کا شمار نجس جانوروں کی دوسری قسم میں ہوگا (۳) مٹی اس کا جموٹا پاک ہے کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے یہ مگروں میں گھونسنے والی ہوتی ہے۔

خون نکلنے اور نہ نکلنے کے اعتبار سے بھی جاندار چیزوں کی دو قسمیں ہیں، (۱) جنہیں زخم لگنے پر خون نہیں بہتا ہے (۲) جنہیں زخم لگنے پر خون بہتا ہے، پہلی قسم جنہیں زخم لگنے پر خون نہیں بہتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) جو پاک چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کھمی اور بعض کینڑے کوڑے ایسے جاندار مردہ اور زندہ دونوں حالت میں پاک ہوتے ہیں (یعنی اگر یہ کینڑا وغیرہ پر لگ جائیں تو انہیں دھلنے کی ضرورت نہیں) البتہ اگر کھمی کسی برتن میں گر جائے تو اس کو اس میں ڈبو کر نکال دینا چاہئے کیونکہ اس کے ایک ڈنک میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتا ہے، دوسرے وہ جو ناپاک چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں جیسے جھینگر وغیرہ جو نالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے جانور مردہ زندہ ہر حال میں نجس ہیں۔

دوسری قسم: جنہیں زخم لگنے پر خون بہتا ہے، ان کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ جانور جن کا مردار کھانا حلال ہے جیسے مچھلی، بڑی اور وہ تمام آبی جانور جو صرف پانی ہی میں رہتے ہیں مردہ زندہ سب پاک ہیں (۲) وہ ماکول اللحم جانور جن کا مردار کھانا حلال نہیں ہے یا وہ آبی جانور جو خشکی پر رہتے ہیں جیسے مینڈھک اور گمڑیاں وغیرہ ایسے جانور مردہ کے بعد نجس ہو جاتے ہیں (۳) انسان یہ موت اور زندگی دونوں

حالت میں پاک ہے (دیکھئے مفتی ۵۹۱/۱-۶۳ شرح صحیح ۴۱-۴۷-۴۸-۳۹۳-۳۹۷-۳۷۸)

(مذکورہ تفصیل پاک ہونے کے بارے میں ہے حلال ہونے کے بارے میں نہیں ان میں بیشتر پاک تو ہیں لیکن حلال نہیں۔ مترجم)

فرمایا: (طہور اناء احد کم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولاً من بالتراب) (۱) جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتامنہ ڈال دے تو اس کی پاکی کے لئے اسے سات بار دھلے جس میں سے پہلی بار مٹی سے ہو، اور ایک روایت میں ہے (فلیرقہ...) تو اسے (پانی کو) بہا دینا چاہئے

۳۔ بہتا خون، خنزیر کا گوشت، مردار

بہتا خون، خنزیر کا گوشت، مردار (یعنی وہ ماکول اللحم جانور جسے غیر شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہو یا ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو) سب نجس ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قل لا أجد فی ما أوحي الی محرماً علی طاعمر بطعمه الا أن یکون مینة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه ذر جس أو فسقا أهل لغیر الله به﴾ (۲) آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہو خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو۔

(۱) مسلم: کتاب الطہارة: باب حکم ولوغ الکلب ح (۲۷۹)

(۲) سورہ انعام آیت: ۱۳۵

جس جانور کا گوشت ذبح کرنے کے بعد کھانا حلال ہے، اس کا چمڑا دباغت (رنگنے) کے بعد پاک ہو جاتا ہے (۱) (خواہ اس کے چمڑے کو مرنے کے بعد ہی کیوں نہ نکالا گیا ہو) اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (اذا دبغ الاهاب فقد طهر) (۲) جب چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔

البتہ دو طرح کے مردار جانور حلال ہیں ایک مچھلی دوسری ٹڈی اور دو طرح کے خون بھی حلال ہیں ایک پکچی دوسری تلی، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (احل لنا

میتتان و دمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان

(۱) ہمارے استاذ گرامی شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ بلوغ المرام کی شرح میں حدیث نمبر ۲۰ صحن میں فرماتے ہیں کہ: جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہوتا ہے کہ نہیں، اس سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سارے چمڑے حتیٰ کہ درندوں کے بھی چمڑے دباغت کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، جب کہ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ دباغت سے صرف ماکول اللحم جانوروں کے ہی چمڑے پاک ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور دلائل کے قریب قریب یہ ہے کہ دباغت سے صرف ماکول اللحم جانوروں کے ہی چمڑے پاک ہوتے ہیں، اگرچہ دوسرے قول کے اندر بھی مغربی ہے (مزید دیکھئے فتاویٰ ابن تیمیہ ۹۰/۲۱-۹۲ و زاد المعاد ۴۵۲/۵-۴۵۶ و شرح صحیح ۴۵/۱)

(۲) مسلسلہ کتاب الحمض: باب طہارة جلود الميتة بالدباغ ح (۲۶۶) ری عبد اللہ بن حکیم کی حدیث (ان النسبہ ﷺ کنسب البئلا تنتفعوا من الميتة باہاب ولا عصب) (اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ مردار کے چمڑے اور پٹھوں سے تم استفادہ نہ کرو) جسے ابوداؤد ح (۳۱۲۸) ترمذی ح (۱۷۲۹) نسائی ح (۳۲۳۹) ابن ماجہ ح (۳۶۱۳) نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل ۷۶۱-۷۷۷ میں اسے صحیح کہا ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، جسے صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث کے مقابلہ میں نہیں پیش کیا جاسکتا ہے، اور اگر صحیح ثابت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث میمون رضی اللہ عنہا کے سابقہ حدیث کے بعد اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے تو اس حدیث کو بلا دباغت دیئے ہوئے چمڑے پر محمول کیا جائے گا، یعنی دباغت دیئے ہوئے چمڑے سے کسی طرح کا استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، اور میمون رضی اللہ عنہا کی حدیث کو سنبھالنے والے چمڑے پر محمول کیا جائے گا بایں طور دونوں حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، اسی کو شیخ ابن باز، بلوغ المرام کی شرح میں ح ۲۳۳ اور شیخ ابن عثیمین نے شرح صحیح کے اندر راجح قرار دیا ہے نیز دیکھئے تخصیص الحیجر ۳۷/۱

فالسکبد والطحال) (۱) ہمارے لئے دومردار اور دوخون حلال کئے گئے ہیں رہی دومردار چیزیں تو وہ ایک مچھلی دوسری ٹڈی ہے، اور رہے دوخون تو وہ ایک کلبجی دوسری تلی ہے۔

۵۔ ودی

یہ ایک سفید گھاڑا گدلا قسم کا پانی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے، یہ پانی نجس ہے، اس کے نکلنے بعد عضو خاص کو دھلنا چاہئے، اور اگر کپڑے میں لگا ہے تو کپڑے کو بھی دھلنا چاہئے پھر وضوء کرے۔ (۲)

۶۔ مذی

یہ ایک سفید لیس دار (پتلا) پانی ہے، جو عموماً ہم بستری کے بارے میں سوچنے یا بیوی سے دل لگی کرنے کے بعد نکلتا ہے، یہ بھی نجس ہے، لیکن چونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے اس کی طہارت میں قدرے تخفیف ہے چنانچہ آپ ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا: (فلیغسل ذکراً وأنثیہ ولبتوضاً وضوئہ للصلاة) (۳) اسے چاہئے کہ اپنے عضو خاص اور فوطوں کو دھل لے اور نماز

(۱) احمدی المسند ۲: ۹۷، واس ماحہ کتاب الصید باب صید الحینان والحراد ح (۲۲۱۸) ح (۳۳۱۴) والدارقطنی ح (۴۷۷)

(۲) معنی لاس فدامہ ۲۳۳/۱ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوطوں کا دھلنا مذی کے ساتھ خاص ہے، ودی کے لئے اس کا حکم نہیں ہے۔

(۳) صحیح سنن ابوداؤد، کتاب الصیارات، باب فی الذی ح (۱۹۰-۱۹۲) اصل حدیث بخاری ح (۲۶۹)، برہ رسلم ح (۳۰۳) میں ہے۔

کی طرح وضو کرے۔

اگر جسم پر کہیں مزی لگ گئی ہے تو اس جگہ کو بھی دھل لے البتہ اگر کپڑے پر لگی ہے، تو وہاں ایک چلو پانی لے کر چھینے مار لینا کافی ہے۔ (۱)

سھل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزی آنے کی وجہ سے اکثر غسل کرنا پڑتا تھا، میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: تمہارے لئے تو صرف وضوء کافی ہے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ کپڑے پر جہاں مزی لگ گئی ہو اس کو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (یکفیک أن تأخذ کفا من ماء فتضع به ثوبک حیث تری أنه قد أصاب منه) (۱) تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر اپنے کپڑے پر اس جگہ چھینے مار دو جہاں تمہیں معلوم ہو کہ مزی لگ گئی ہے۔

۷۔ منی

منی اس پانی کو کہتے ہیں جو قضاے شہوت کے وقت لذت کے ساتھ زور سے نکلتی ہے اور جس کے نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔

صحیح قول کے مطابق منی پاک ہے (۲) البتہ اگر منی تر ہے تو اس کا دھونا اور اگر خشک ہو

(۱) حسن صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب من العذی ح (۲۱۰) نورمدی ح (۱۱۵) واس ماہ ح (۶۰)

(۲) دیکھئے شرح المودعی علی صحیح مسلم ۳، ۱۹۷-۱۹۹، اس کا فتویٰ ہمارے اجازت نامہ: انوار محمدیہ ج ۲

گئی ہے تو اس کا کھر چنا مستحب ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو منی لگنے سے کپڑے کو دھوتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا: تمہارے لئے اتنا ہی کافی تھا اگر تم منی کو دیکھتے ہو تو اسے دھل لیتے اور اگر نہیں دیکھتے ہو تو، تو اس کے ارد گرد پانی چھڑک لیتے، میں اللہ کے رسول ﷺ کے کپڑے سے منی کھرچ دیتی تھی، اور آپ اسی میں نماز پڑھتے تھے (۱)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: (وانسى لاحكه من ثوب رسول الله ﷺ يابساً من ظفري) (۲) کہ میں خشک منی کو آپ ﷺ کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی۔ مزید آپ فرماتی ہیں کہ (ان رسول الله ﷺ كان يغسل المنى ثم يخرج الى الصلاة فى ذلك الثوب وانا أنظر الى أثر الغسل فيه) (۳) اللہ کے رسول ﷺ منی کو کپڑے سے دھل دیتے تھے پھر اسی کپڑے میں نماز کے لئے نکلتے تھے اور میں دھونے کے نشانات آپ کے کپڑے میں دیکھتی تھی۔

۸۔ جلالہ

نجس خور جانور کو جلالہ کہتے ہیں ایسے جانور کے گوشت اور دودھ کی طہارت اور

(۱) مسلم کتاب الطہارۃ باب حکم المنى ح (۲۸۸)

(۲) مسلم کتاب الطہارۃ باب حکم المنى ح (۲۶)

(۳) مسلم کتاب الطہارۃ باب حکم المنى ح (۲۸۹)

حلال ہونے کے لئے ضروری ہے، کہ انہیں اتنے دنوں تک باہر جانے سے روکے رکھا جائے جتنے دنوں میں ان کی طہارت کا یقین ہو جائے۔ (بایں طور کہ اس سے نجاست اور بدبو زائل ہو جائے)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (نہی رسول اللہ ﷺ عن لحوم الجلالة والبانہا) (۱) اللہ کے رسول ﷺ نے نجس خور جانور کا دودھ پینے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نجس خور جانور کا گوشت کھانا چاہتے تھے تو اسے تین دن تک قید رکھتے تھے پھر اس کا گوشت کھاتے۔ (۲)

نیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (نہی عن الجلالة فی الابل أن یرکب علیہا أو یشرب من البانہا) (۳) اللہ کے رسول ﷺ نے نجس خور اونٹ پر سواری اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔

(یاد رہے یہاں نجس خور جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گوشت اصلاً کھایا جاتا ہے لیکن نجاست خوری کی وجہ سے انہیں جلالہ کہا گیا ہے جیسے اونٹ یا مرغی وغیرہ، رہے وہ جانور جن کا گوشت اصلاً کھایا نہیں جاتا ہے تو وہ مراد نہیں ہیں)۔

(۱) صحیح سنن ابوداؤد: کتاب الاطعمہ ج (۲۷۸۵) ترمذی ج (۱۸۲۴) ابن ماجہ ج (۲۱۸۹)

(۲) مصدق اس اسی نسیبہ جس کا لفظ اس طرح ہے: "انہ کان یحس الذحاحة الحلالة ثلاثا" کہ وہ جلالہ مرغی کو تین

دن تک روکتے تھے (پھر کھاتے تھے)۔ دیکھئے ادوا العلیلین ج (۵) ۲۵

(۳) حسن صحیح سنن ابوداؤد: کتاب الاطعمہ ج (۲۷۸۷)

۹۔ چوبہا

اگر چوبہا گھی میں گر جائے خواہ گھی سائل ہو یا جامد تو چوبہا کو اور اس کے ارد گرد گھی کو نکال کر پھینکنے کے بعد باقی گھی کو کھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ گھی کے اوصاف ثلاثہ، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف نہ بدلا ہو، اور اگر بدل گیا ہے تو پوری گھی کو پھینکنا پڑے گا، میمونہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: کہ اللہ کے رسول ﷺ سے گھی میں گری ہوئی چوبہا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ألقوها وما حولها فاطر حوٰہ وکلوا سمنکم) (۱) چوبہا کو اور اس کے ارد گرد گھی کو نکال کر پھینک دو اور اپنا گھی کھا لو۔

بہر حال اگر گھی جمی ہوئی نہیں ہے تو اس کا حکم پانی کا حکم ہے چوبہا کے گرنے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے، تو وہ نجس ہے، اور اگر نہیں بدلتا ہے تو وہ پاک ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ (۲)

۱۰۔ غیر ماکول اللحم کا پیشاب و گوبر

جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر نجس ہے جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (نہی رسول اللہ ﷺ أن

(۱) بخاری: کتاب الوضوء، ما یفیع من النجاسات فی السمن والعام، ح (۲۳۵)

(۲) دیکھئے فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۹، ۲۱۔ اسی قول کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی بلوغ المرام کی شرح میں راجع قرار دیا ہے

یتمسح بعظمراً أو ببعراً) (۱) اللہ کے رسول ﷺ نے ہڈی اور لید سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ کے پاس جب لید استنجاء کرنے کے لئے لائی گئی تو آپ ﷺ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا: یہ نجس ہے۔

البتہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا پیشاب اور گوبر دونوں پاک ہے کیونکہ آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا (۳) (اگر نجس ہوتا تو آپ انہیں پینے کا حکم نہ دیتے)

اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ ﷺ بکریوں کے باز میں نماز پڑھ لیتے تھے جو ان کے پیشاب اور مینگنیوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ (۴)

۱۱۔ دوران نماز کپڑے پر گندگی ہونے کا علم

دوران نماز اگر کپڑے، یا بدن، یا جائے نماز پر گندگی ہونے کا علم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہئے اس میں تفصیل ہے:

اگر دوران نماز اگر گندگی ہونے کا علم ہو اور بلا کشف شرم گاہ اس کے ازالہ کا امکان ہو تو گندگی زائل کر کے نماز جاری رکھے اس کی نماز صحیح ہے۔

(۱) مسلم کتاب الطہارۃ باب الاستنطابۃ ح (۲۶۳)۔

(۲) محازی کتاب الوضوء، باب لا یستنجی مروت ح (۱۵۶)۔

(۳) محازی کتاب الوضوء، باب احوال الامل والدواب.... ح (۲۳۳) مسلم ح (۱۶۷۱)۔

(۴) محازی کتاب الوضوء، باب احوال الامل والدواب.... ح (۲۳۴) مسلم ح (۱۵۲۴)۔

۲ اگر دوران نماز گندگی کے زائل کرنے سے کشف شرمگاہ کا امکان ہو تو نماز تو زدے اور گندگی زائل کر کے دوبارہ از سر نو نماز پڑھے۔

۳ اگر نماز سے فراغت کے بعد گندگی ہونے کا علم ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مذکورہ تفصیل کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک دن آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لیں، صحابہ کرام نے جب آپ کو جوتیاں نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں نکال دیں، نماز سے جب آپ ﷺ فارغ ہوئے، تو آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں؟، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی ہیں، تو ہم نے بھی اتار دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: واقعہ یہ ہے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے جوتیوں میں نجاست لگی ہے (تو میں نے انہیں نکال دیں)، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد آئے، تو پہلے اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر ان میں کوئی نجاست لگی ہے، تو اسے زمین پر رگڑ دے پھر ان میں نماز پڑھے۔ (۱)

(۱) صحیح مسند امام احمد ۲/۸۰۲۰۲۰ صحیح سنن ابوداؤد کتاب الصلاة باب الصلاة فی النعل

یہ تفصیل تو از الہ نجاست کے متعلق تھی، لیکن اگر کسی کو دوران نماز یا نماز سے فراغت کے بعد یاد آئے کہ اس نے بلا وضوء نماز پڑھی ہے، یا جنابت لاحق تھی اور غسل نہیں کیا ہے، تو ہر دو حالت میں اس کی نماز شروع ہی سے باطل ہے، اسے وضوء یا غسل جس کی بھی ضرورت ہو اس سے فارغ ہو کر دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے (لا تقبل صلاة بغیر طہور) (۱) بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ہے۔

۱۲۔ شراب

جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہر طرح کی بننے والی نشیلی چیز نجس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب کو (درجس) کہا ہے اور (درجس) کا معنی نجاست کے ہوتا ہے، جس سے پنا ضروری ہے، اور وہ چیز جس سے مطلقاً پچنے کا حکم دیا جائے وہ چھونے اور پینے وغیرہ سب کو عام ہوتا ہے، اسی طرح آپ ﷺ نے اسے اونڈیلنے کا حکم دیا ہے، اور ن شراب پر لعنت بھیجی ہے (۲) (مذکورہ چیزیں شراب کے نجس ہونے کی دلیل ہے)۔

شیخ شنیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دلائل کی بنا پر جمہور علماء کے نزدیک

سلسلہ کتاب الطہارۃ باب وجوب الطہارۃ للصلاة ح (۲۲۴)

شرح العمدة فی الفہم لشیخ الاسلام ابن تیمیہ ص (۱۰۹)

شراب نجس عین ہے، لیکن جیسا کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جمہور علماء کے خلاف ربیعہ، لیث، مزنی رحمہم اللہ اور چند متاخرین بغدادی علماء شراب کی طہارت کے قائل ہیں، ان کا استدلال ہے کہ آیت کریمہ (۱) میں شراب کے ساتھ مذکور دیگر اشیاء: جوا، تھان، اور فال نکالنے کے پانے گو کہ ان کا استعمال حرام ہے لیکن نجس عین نہیں ہیں۔ (اس لئے شراب بھی نجس نہیں ہے)۔

جمہوران کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ: لفظ (رجس) مذکورہ تمام چیزوں کے نجس عین ہونے پر دلالت کرتا ہے، اب جسے اجماع یا نص شرعی اس حکم سے خارج کر دے وہ خارج ہو جائے گا، اور جسے نہ خارج کرے اس پر نجاست کا حکم باقی رہے گا، کیونکہ جیسا کہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے کہ عام کے چند افراد کو اگر کسی شخص کی بنیاد پر خارج کر دیا جائے، تو عام کا حکم باقی افراد سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔

بنا بریں آج کل کلونیانا می نشہ آور عطر جو کافی رواج پذیر ہے، نشہ آور ہونے کی وجہ سے نجس ہے، اسے استعمال کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، ہماری اس بات کی تائید اللہ کے اس قول (فاجتنبوا) سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مطلق بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور مذکورہ اشیاء سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

(۱) یاہا الذین آمنوا انما الحمر والمیس والانصاب والالام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا

بہر حال کسی انصاف پسند حق کے متلاشی کے لئے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ، مذکورہ عطر کے نشہ آور ہونے کے باوجود اسے استعمال کرے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو اور اسے پسند کرے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن میں کہا ہے کہ (فانہ رجس) وہ نجس ہے۔

اسی قول کی تائید اللہ کے رسول ﷺ کے شراب کے حرام ہونے کے بعد اسے اونڈیل دینے کے فرمان سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر شراب میں پینے کے علاوہ کوئی اور منفعت ہوتی تو آپ ﷺ اسے ضرور بیان فرمادیتے اور اونڈیلنے کا حکم نہ دیتے، جیسا کہ آپ ﷺ مردار کے چمڑے سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ (۱)

۱۳۔ سونا اور چاندی کے علاوہ ہر طرح کا برتن مباح ہے

ہر طرح کا برتن استعمال کرنا مباح اور جائز ہے (۲) سوائے ان برتنوں کے جن

(۱) معمولی تصرف کے ساتھ دیکھئے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ۱۲۹، ۲ نیز دیکھئے شرح معجم ۳۶۶، جس میں شیخ ابن شمیم نے شراب کے عدم نجاست کو راجح قرار دیا ہے، لیکن شیخ ابن باز نے جمہور کے قول کی تائید کرتے ہوئے شراب کی نجاست کو راجح قرار دیا ہے، اور شیخ کے نزدیک برائے خوشبو بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے شراب استعمال کرنے، اس کی خرید و فروخت اور اس کے پینے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

(۲) حتیٰ کہ کافروں کا برتن بھی استعمال کرنا جائز ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لئے اہل کتاب کا ذبیحہ طہال کیا ہے، اسی طرح آپ ﷺ نے خیمہ میں زہر جلی کھرنی کو حکایا جسے ایک یہودی عورت نے آپ کو حد یہ کیا تھا، اور شتر کہ عورت کے مشکیزہ سے پانی استعمال کیا ہے، یہ مذکورہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کافروں کا برتن ہمارے لئے استعمال کرنا جائز ہے، رہتی بخاری ج ۱ (۵۳۹۶) اور مسلم ج (۱۹۳۰) میں ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث (لا تأکلوا فیہا الا ان لا ھدوا عھم ما فاعسلوھا وکسلوھا) (اہل کتاب کے برتنوں میں نہ کھاؤ، البتہ اگر ان برتنوں کے (بقیہ گھسٹنے

کی حرمت دلیل سے ثابت ہے جیسے سونا چاندی کا برتن یا وہ برتن جن میں سونا چاندی (زیادہ مقدار میں) لگا ہو، البتہ اگر کسی برتن میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے اسکی درستی کے لئے تھوڑا چاندی کا تار لگا ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (۱)

جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا تشربوا فی آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فی صحافهما فانها لهم فی الدنيا ولکم فی الآخرة) (۲) سونا چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور ان کے پلیٹوں میں کھاؤ، دنیا میں یہ کافروں کے لئے ہے اور آخرت میں صرف تمہارے لئے ہے۔

۱۳۔ خلاصہ

بنیادی طور پر ہر چیز پاک اور مباح ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے، بنا بریں اگر پانی یا کپڑا یا جگہ کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو تو اسے پاک مانا جائے گا، اسی طرح اگر کسی چیز کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسے نجاست کے لاحق ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کیا جائے گا، اسی طرح اگر کسی چیز کے نجس

(۱) اگلے صفحہ کا بقیہ) علاوہ کوئی برتن نہ پاؤ تو اسے دھل لو پھر اس میں کھاؤ، تو اس حدیث کے بارے ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں دھونے کا حکم استنباطی حکم ہے، البتہ اگر مسلمان کو برتن میں شراب یا خنزیر کے گوشت کے اثرات دیکھے تو ایسی صورت میں دھونا واجب ہے شرح صحیح ۶۹۱

(۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے وہاں کی جگہ پر چاندی کا تار لگایا، دیکھئے بخاری، کتاب فرض الخمس، باب ما ذکر من درج النبی ﷺ ح (۳۱۰۹)

(۲) بخاری، کتاب الإنطعمۃ، باب الاکل فی انا، مفوض صح (۵۴۲۶) ومسلح (۲۰۶۷)

ہونے کا یقین ہو پھر اس کے پاک ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے اسے نجس سمجھا جائے گا، اسی طرح اگر حدث کے لاحق ہونے کا یقین ہو، اور اس سے طہارت کے بارے میں شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ طہارت حاصل کرنی ضروری ہے۔

اسی طرح اگر نماز کی رکعت یا بیت اللہ شریف کے طواف یا بیوی کو طلاق کی تعداد میں شک ہو تو یقین یعنی کم والی تعداد پر عمل کیا جائے گا۔ بہر حال یہ اسلام کا یہ بہت عظیم اصول ہے، (کہ معلوم حالت پر عمل کیا جائے اور شک کو ترک کر دیا جائے)

یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے دوران نماز کچھ نکلنے کا خیال ہوتا تھا (لا ینصرف حتی یسمع صوتاً أو یجد ریحا) وہ نماز سے باہر نہ نکلے تا آنکہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ (یعنی اسے ہوا کے خارج ہونے کا یقین ہو جائے) (۱)

(۱) بخاری: کتاب الوضوء، باب من لا ینوضأ من الشک حتی یستغین ح (۱۳۷) ومسلم ح (۳۱۱)

فطرت کی سنتیں

تیسری فصل

اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ فطرت کی سنتوں سے مراد انبیاء کرام کے طریقے اور ان کی سنتیں ہیں۔

ان طریقوں میں سے کچھ واجب ہیں، اور کچھ مستحب، اور جو دونوں طرح کی سنتوں کو ایک ہی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے (۱) (یعنی اس سے ان کے احکام میں یکسانیت لازم نہیں آتی ہے)۔

ان سنتوں میں سے چند سنتیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

ختنہ: مرد کے عضو تناسل کے سپاری کو ڈھانپنے ہوئے چمڑے کو کاٹنا یا اس طور کہ سپاری کھل جائے، اور عورتوں کی شرمگاہ میں مدخل ذکر کے بالائی حصہ میں گھٹلی کے مانند بڑھے ہوئے گوشت کو جو مرغے کی کلغی کے مشابہ ہوتا ہے، کے کاٹنے کو ختنہ کہا جاتا ہے۔

عورتوں کے ختنہ میں مستحب ہے کہ پورے گوشت کو نہ کاٹا جائے کیونکہ عورتوں کے ختنہ کا مقصد تقلیل شہوت ہے، جو معمولی حصہ کو کاٹنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے (۲)، آپ ﷺ نے مدینہ کی ایک ختنہ کرنے والی عورت سے فرمایا: (اذا خففت

(۱) ابکھنہ شرح نووی علی صحیح مسلم ۱۴۸/۳

(۲) ابکھنہ شرح نووی علی صحیح مسلم ۱۴۸/۳

فَأَسْمَى وَلَا تَنْهَكِي فَاِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ (۱) جب تم ختنہ کرو تو تھوڑا کاٹو، زیادہ نہ کاٹو، ایسا کرنا چہرے کی تروتازگی، اور شوہر سے زیادہ لذت کا باعث ہے۔

علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق مردوں کے لئے ختنہ کرنا واجب ہے، اور عورتوں کے لئے مستحب (۲)

ابراہیم علیہ السلام نے (۸۰) سال کی عمر میں کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا تھا۔ (۳)
اسی طرح آپ ﷺ نے ایک صحابی کے اسلام قبول کرنے بعد ان سے فرمایا: (الْق
عِنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاسْتَتِن) کفر کا بال نکال دو اور ختنہ کرو۔

۲۔ زیر ناف بال موٹنا۔

۳۔ بغل کے بال اکھاڑنا۔

۴۔ ناخن تراشنا۔

۵۔ مونچھ کترنا، اور یہ واجب ہے (۴)۔

مذکورہ یا نچوں چیزوں کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جس

(۱) تاریخ الخطیب البغدادی ۳۲۷-۳۲۸، والطبرانی فی الاوسط، اور لفظ طبرانی کے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے مختلف

سندوں کو جمع کرنے کے بعد حدیث کو صحیح کہا ہے دیکھئے سلسلہ صحیحہ ۲/۳۵۷

(۲) دیکھئے مغنی لابن قدامہ ۱/۱۱۵، اور شرح صحیح ۱/۱۳۳

(۳) بخاری کتاب آحادیث فانیا باب (وانحد اللہ الیہ ابرامہر حلیلا) ج (۳۳۶)؛ سلم ج (۲۳۷۰)

(۴) جیسا کہ زید بن ارقم کی حدیث میں آئے آ رہا ہے۔

میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب) (۱) فطری پانچ چیزیں ہیں (یا آپ ﷺ نے فرمایا) پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، موئے زیر ناف صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، اور مونچھ کترنا۔

مذکورہ چیزوں کو چالیس دنوں سے زیادہ نہیں ترک کرنا چاہئے۔

انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ہمارے لئے، مونچھ کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھاڑنے، موئے زیر ناف صاف کرنے میں چالیس دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم انہیں ان سے زیادہ نہ ترک کریں۔ (۲)

۶۔ داڑھی بڑھانا

مندرجہ ذیل دلائل کی روشنی میں داڑھی بڑھانا واجب ہے

۱۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (خالقوا المشركين، وفسدوا اللحى وأحفوا الشوارب) (۳) مشرکوں کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کترنے میں مبالغہ کرو!

(۱) بخاری کتاب اللباس، باب قص الشارب ج (۵۸۸۹) و مسلم ج (۲۵۷)

(۲) مسلم کتاب الطهارة باب خصال الفطرة ج (۲۶۸)

(۳) بخاری کتاب اللباس، باب تقليم الأظافر ج (۵۸۹۲)

ب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس) (۱) مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو!

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحي) (۲) مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرو! اور داڑھی کو بڑھاؤ۔

جو لوگ مونچھ نہیں کاٹتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من لم يأخذ شاربہ فليس منا) (۳) جو اپنی مونچھ کو نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے

۷۔ مسواک کرنا

مسواک کرنا ویسے ہمہ وقت مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ((السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب)) (۴) مسواک منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔

لیکن مندرجہ ذیل اوقات میں زیادہ مستحب ہے:

(۱) مسلم کتاب الطہارۃ باب نصال الفترۃ ح (۲۶۰)

(۲) بخاری، کتاب اللباس، باب اعفاء اللحية ح (۵۸۹۳) و مسلم ح (۲۵۹) الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

(۳) صحیح مسنن سنائی کتاب الطہارۃ باب قص الشارب ح (۱۳) و ترمذی ح (۲۷۶۱)

۱۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (کان النبی ﷺ اذا قام من اللیل یشوس فاذا بالسواک) (۱) اللہ کے رسول ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے۔

۲۔ ہر وضو کے وقت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لولا أن أشق علی امتی لأمرتهم بالسواک عند کل وضوء) (۲) اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا

۳۔ ہر نماز کے وقت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لولا أن أشق علی امتی لأمرتهم بالسواک عند کل صلاة) (۳) اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

۴۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ (أن النبی ﷺ کان اذا دخل

(۱) بخاری کتاب الوضوء، باب السواک ح (۲۴۵) ومسلم ح (۲۵۵)

(۲) بخاری نے کتاب الصیام، باب السواک الرطب میں اس حدیث کو معلق صیغہ جزم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حزم وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے

(۳) بخاری کتاب الجمعة باب السواک یوم الجمعة ح (۸۸۷) ومسلم ح (۲۵۲)

بیتہ بدأ بالسواك) (۱) اللہ کے رسول ﷺ جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔

۵۔ دانت اور منہ کی صفائی کی ضرورت کے وقت

منہ میں بد بو پیدا ہو جائے یا منہ بد مزہ ہو جائے یا دانت کھانے پینے سے زرد ہو جائے تو مسواک کرنا مستحب ہے (۲) کیونکہ مسواک کی مشروعیت حقیقت میں منہ کی صفائی اور پاکی کے لئے کی گئی ہے، لہذا جب منہ میں بد بو پیدا ہو جائے، تو اس کا صاف کرنا نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ (۳)

۶۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی قراءت سنتا ہے، اور اس آدمی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اس کے بعد جو کچھ اس کے منہ سے قراءت کی آواز نکلتی ہے، وہ فرشتہ کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، لہذا تم تلاوت قرآن کے لئے اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو۔ (۳)

(۱) مسلم کتاب الطہارۃ باب السواک ح (۲۵۳)

(۲) ابو یوسف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے مسواک کی اہمیت کے بارے سنا تو میں اس وقت سے سونے سے پیسے سونے کے بعد، کھانے کے پیسے، کھانے کے بعد مسواک کرنے لگا

(۳) سنن صحیح الترمذی، ۹۱۱

۷۔ مسجد کے لئے گھر سے نکلنے سے پہلے

زید بن خالد الجعفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ماکان رسول اللہ ﷺ يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك) (۱) اللہ کے رسول ﷺ جب بھی کسی نماز کے لئے گھر سے نکلتے تھے، تو پہلے مسواک کر لیتے تھے زبان کا مسواک کرنا مستحب ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا تو آپ کو دیکھا کہ (يستاك على لسانه) (۲) آپ اپنی زبان پر مسواک کرتے تھے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ داہنی طرف سے مسواک شروع کیا جائے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (أن النسبى ﷺ كان يعجبه التيسمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (۳) کہ اللہ کے رسول ﷺ جو تپہننے، کنگھی کرنے، وضوء کرنے، اور دیگر تمام امور میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔

اسی طرح مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کیا جائے، کیونکہ مسواک کرنا گندگی صاف کرنے کے قبیل سے ہے لہذا استنجاء کی طرح اسے بھی بائیں ہاتھ سے کرنا چاہئے (۴)

(۱) حسن، صحیح الترغیب والترہیب ۹۰/۱

(۲) بخاری، کتاب الطہارۃ، باب السواک ح (۲۲۳) و مسلم ح (۲۵۴)

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب التیسمن فی الوضوء ح (۱۶۸) و مسلم ح (۲۶۸)

(۴) شرح لعمدة فی الفقہ ص (۲۲۳) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کیا جائے، جیسا کہ امام احمد سے ابن منصور کو روایات کیا ہے، اور کسی امام نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے دیکھئے فتاویٰ ۱۰۹/۲۱

۸۔ براجم کا دھلنا:

براجم سے مراد انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہیں ہیں (۱)، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ براجم سے مراد جوڑ اور گرہیں دونوں ہیں (چونکہ یہاں میل اور گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے اس لئے ان کا دھلنا فطری سنت ہے) اس طرح اسی حکم میں جسم کے وہ سارے اعضاء شامل ہیں جہاں جہاں گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے، جیسے کان وغیرہ کی سلوٹیں (۲)

۹۔ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا

آگے اس کی تفصیل ان شاء اللہ آرہی ہے۔

۱۰۔ استنجاء کرنا یا وضوء کے بعد شرمگاہ پر چھنٹے مارنا۔

اس کی بھی تفصیل آگے ان شاء اللہ آرہی ہے۔

مذکورہ ساری فطری سنتوں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: دس چیزیں پیدائشی سنت ہیں: مونچھ کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، بغرض صفائی ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہوں کو دھلنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال کا صاف کرنا، استنجاء کرنا (۳)

(۱) دیکھئے فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۳۳۸/۲۱

(۲) دیکھئے شرح النووی ۱۵۰/۳

(۳) مسلم، کتاب الطہارة، باب خصال الفطرة ح (۲۶۱)

مصعب (راوی حدیث) دسواں بھول گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کھلی کرنا ہو، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ شاید دسواں ختنہ کرنا ہو جیسا کہ دوسری حدیث میں پانچ سنن فطرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ (۱)

سنن فطرت کی دو طرح ہیں: قلبی اور عملی

قلبی فطرت: اس سے مراد اللہ کی معرفت اس کی محبت اور اس کی محبت کو دوسروں پر ترجیح دینا ہے۔

عملی فطرت: اس سے مراد یہی مذکورہ سنن فطرت اور ان کے ہم معنی دیگر اعمال ہیں قلبی فطرت سے نفس روح اور دل کی صفائی ہوتی ہے، جبکہ عملی فطرت سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی دوسرے سے نشوونما ہوتی ہے۔ (۱)

(۱) دیکھئے شرح النووی ۱۵۰۳، ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ فطرت کی تقریباً تیس سنتیں ہیں ۳۳۷۱۰۔

(۲) تحفۃ المودوداً حکام الملود لابن القیم ص ۹۹-۱۰۰

چوتھی فصل قضائے حاجت کے آداب

قضائے حاجت کے لئے کچھ آداب ہیں، جن میں سے چند واجب ہیں اور چند مستحب، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ قضائے حاجت کے وقت اللہ کی ذکر والی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھے

البتہ اگر گم ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنے پاس (کپڑے میں چھپا کر) رکھ سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (کمان رسول اللہ اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ) (۱) اللہ کے رسول ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، تو اپنی انگٹھی اتار دیتے تھے۔

کیونکہ آپ ﷺ کی انگٹھی پر (محمد رسول اللہ) کا نقش تھا۔

۲۔ قضائے حاجت کے وقت لوگوں کی نظروں سے دور کسی باپردہ جگہ کی تلاش

کرے۔ تاکہ قضائے حاجت کے وقت ہونے والی آواز اور، بو، دوسروں تک نہ پہنچے، اور نہ ہی اس کی شرمگاہ پر کسی کی نظر پڑے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (کمان اذا أراد البراز انطلق حتی لا يراه احد) (۲) جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے، تو اتنا دور

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب الخاتم یكون فی ذکر اللہ تعالیٰ یدخل بہ الخلاء، ح (۱۹) وترندی ح (۱۷۳۶) الترمذی ح (۵۲۱۰)

(۲) صحیح سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب تحلل عند قضاء الحاجۃ ح (۲)

چلے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔

۳۔ قضاے حاجت کی دعا پڑھے، اور حمام میں بائیں بائیں قدم پہلے رکھے!

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، اور اگر میدان میں قضاے حاجت کا ارادہ ہے تو کپڑا سمیٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھے (بسم اللہ (۱) اللھم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث) (۲) اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، پھر بائیں قدم آگے بڑھاتا ہو بیت الخلاء میں داخل ہو۔

۴۔ اگر میدان میں قضاے حاجت کا ارادہ ہے تو زمین سے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہ سمیٹنے، تاکہ بے ستر نہ ہونے پائے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (کمان اذا أراد حاجۃ لا یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض) (۳) جب قضاے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہیں سمیٹتے تھے۔

۵۔ قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے

(۱) لفظ بسم اللہ کا اضافہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کا اضافہ عمری نے کیا ہے اور اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے ویسے لفظ بسم اللہ دوسری اور روایتوں سے بھی ثابت ہے: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (جنوں کی نگاہوں سے آدمی کے شرک گاہ کا پردہ بسم اللہ ہے) ترمذی ح (۶۰۶) شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارداء الغلیل ۸۸۱-۸۹۰

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب ما یقول عند الخلاء ح (۱۳۴) مسلم ح (۳۷۵)

(۳) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب کیفیۃ التکف عند الحاجۃ ح (۱۳) ترمذی ح (۱۳)

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) (۱) قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ مت بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف پھر جاؤ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام آئے تو ہم نے ایسے بیت الخلاء دیکھے جو کعبہ کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم کعبہ کی طرف سے پھر جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ (۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنی بہن حفصہ کے گھر (کی چھت) پر چڑھا تو دیکھا اللہ کے رسول ﷺ شام کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کی طرف پشت کر کے قضاے حاجت کر رہے ہیں۔ (۳)

سابقہ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے علماء کرام کے درمیان قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے میں اختلاف ہے، چنانچہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے جو ہر جگہ مطلقاً قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت

(۱) یہ حکم اہل مدینہ یا جو مدینہ سے شمال یا جنوب میں ہیں، ان کے لئے ہے، رہے جو لوگ مشرق یا مغرب میں ہیں انہیں قضاے حاجت کے وقت شمال یا جنوب کی طرف رخ کرنا چاہئے۔

(۲) بخاری کتاب الصلاة باب قبلۃ اہل المدینۃ والى الشام والمشرق ح (۳۹۴) مسلم ح (۲۶۳)۔

(۳) بخاری کتاب الوضوء باب التمر زنی البویوت ح (۱۳۸) مسلم ح (۲۶۲)۔

کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس لئے خواہ عمارت ہو یا میدان ہر جگہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا مطلقاً حرام ہے۔ (۱)

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا صرف میدان میں حرام ہے، (عمارت میں جائز ہے) جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصولی قاعدہ ہے کہ آپ ﷺ جب امت کو کسی چیز سے منع کریں، پھر اس کے برخلاف خود کریں، تو ایسی صورت میں نہی حرمت کے لئے نہیں بلکہ کراہت کے لئے ہوتی ہے، دوسری بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث خاص ہے، اور قاعدہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے۔

لیکن ایک مسلمان کے لئے یہی بہتر ہے کہ خواہ میدان میں ہو یا عمارت میں مطلقاً، ہر جگہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نہی سے پہلے کی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہو جیسا کہ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے۔ (۲)

۶۔ راستہ، سایہ تلے، اور پانی کے گھاٹ پر قضائے حاجت نہ کرے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (انقوا

(۱) تمام المسئله لبانی ص (۶۰)

(۲) اسی قول کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح میں راجح قرار دیا ہے دیکھئے شرح معجم بھی ۹۸۱

اللحانین) دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو! لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ وہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ایک وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو سایہ دار جگہ پر قضائے حاجت کرتا ہے۔ (۱)

معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے اجتناب کرو گھاٹوں، عام راستہ، اور سایہ تلے قضائے حاجت سے۔ (۲)

۷۔ قضائے حاجت کے لئے نرم اور نشیبی جگہ تلاش کرے

اور بدن اور کپڑے پر چھینٹا پڑنے سے بے حد احتیاط کرے، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کسی بڑی گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ (۳)

۸۔ قضائے حاجت کے وقت گفتگو نہ کرے

(۱) مسلم کتاب الطہارۃ باب لمھی من التھی فی الطرق والظلال ح (۲۵۹)

(۲) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب المواضع الیٰ الیٰ عن ابی بول نعیم ح (۲۶) و ابن ماجہ ح (۳۲۸)

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب من الکلبان ان لایستتر من یوضح (۲۱۶) و مسلم ح (۲۹۲)

اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے اور نہ ہی زبان سے موزن کے اذان کا جواب دے البتہ کسی انتہائی ضروری کام کے وقت گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی گزرتے ہوئے آپ ﷺ سے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ (۱)

اسی طرح مجاہد بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئے دراں حالیکہ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، انہوں نے آپ ﷺ سے سلام کیا لیکن آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بعد آپ ﷺ نے وضوء کیا پھر معذرت کرتے ہوئے کہا: (میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ) میں بغیر طہارت کے ذکر الہی پسند نہیں کرتا ہوں۔ (۲)

۹۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منه) (۳) تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہہ نہ رہا ہو، پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرے۔

(۱) مسلم، کتاب الخیض باب العجم ح (۳۷۰)۔

(۲) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب أیرد السلام وهو یبول ح (۱۷)۔

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب البول فی الماء الدائم ح (۲۳۹)، مسلم ح (۲۸۲)۔

۱۰۔ حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یغتسل أحدکم فی الماء الدائم وهو جنب) (۱) تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں غسل نہ کرے۔

۱۱۔ غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یبولن أحدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ) (۲) تم میں سے کوئی اپنے غسل خانہ میں جس میں وہ غسل کرتا ہے پیشاب نہ کرے۔

۱۲۔ داہنے ہاتھ سے نہ شرمگاہ کو چھوئے اور نہ ہی اس سے استنجاء کرے

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (إذا شرب أحدکم فلا یتنفس فی الاناء، وإذا أتى الخلاء فلا یمس ذکرہ بیمنہ، ولا یتمسح بیمنہ) (۳) جب تم سے کوئی پئے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے ذکر کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے ڈھیلا استعمال کرے۔

(۱) مسلم، کتاب الطہارۃ باب النہی عن الاغتسال فی الماء الراکد ح (۲۸۳)۔

(۲) صحیح، صحیح سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب البول فی الاستجم ح (۲۷)۔

(۳) بخاری، کتاب الوضوء باب النہی عن الاستنجاء بالیمنین ح (۱۵۳) مسلم ح (۲۶۷)۔

۱۳۔ ہڈی اور لید سے استنجاء نہ کرے۔

جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جنوں کے قصہ میں ہے کہ، جب جنوں نے آپ ﷺ سے (اپنے) کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: (لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم أو فر ما یکون لحما و کل بعرة علفا لدوا بکم) ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جب تم اسے پاؤ گے تو وہ گوشت سے بھر جائے گا (یہ تمہارا کھانا ہے) اور ہر لید یہ تمہارے جانوروں کا کھانا ہے، پھر آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: لہذا تم ان دونوں سے استنجاء نہ کرو، اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی (جنوں کا) کھانا ہے۔ (۱)

۱۴۔ جب ڈھیلا استعمال کرے تو کم سے کم تین ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ قضائے حاجت پیشاب یا پاخانہ کے وقت ہم قبلہ رخ ہوں، یا دائیں ہاتھ سے استنجاء کریں، یا تین پتھروں سے کم استنجاء کریں، یا گوبر اور ہڈی سے استنجاء کریں۔ (۲)

اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جب تم

(۱) مسلم کتاب الطہارة باب الخمر بالقرن فی الصحیح ح (۳۵۰) تو سین کی عہارت مسند امام احمدی ہے ح (۴۱۳۹)۔

(۲) مسلم کتاب الطہارة باب الاستنجاء ح (۲۶۲)۔

میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے نکلے، تو اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے ان سے استنجاء کرے یہ اس کے لئے کافی ہے۔ (۱)

۱۵۔ نیند سے بیداری کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھلنے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) (۲) جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ دھلنے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے۔

۱۶۔ سبیلین (پیشاب اور پاخانہ کی جگہ) سے گندگی کو صاف کرے

پیشاب اور پاخانہ سے فراغت کے بعد نجاست کی جگہ کو پانی پتھر یا ان کے قائم مقام دوسری پاک جامد چیزوں سے صاف کرے، بشرطیکہ وہ چیز قابل احترام نہ ہو (یعنی کھانے والی چیز یا جس میں ذکر الہی ہونہ ہو) جیسے لکڑی، کپڑا، ٹیسو پیپر، وغیرہ بہر حال صحیح قول کے مطابق جس سے بھی نجاست صاف ہو جائے وہ ڈھیلا کے قائم مقام ہے (۲)۔

(۱) حسن، صحیح سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب الاستنجاء بلا جارح (۴۰)

(۲) بخاری، باب الاستنجاء، ج (۱۶۲) مسلم ج (۲۷۸)

(۲) دیکھئے المغنی ۱/۱۳۱؛ تہذیبہ رحمۃ اللہ نے کہا یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔

استنجاء کے تین مراتب ہیں:

۱۔ پہلے ڈھیلا استعمال کرے پھر پانی استعمال کرے، اگر ایسا کرنے میں کوئی مشقت یا ضرر نہ ہو تو یہ سب سے بہترین اور کامل طریقہ ہے۔

۲۔ صرف پانی استعمال کرے۔

۳۔ صرف ڈھیلا استعمال کرے۔ ڈھیلا استعمال کرنے کی صورت میں کم سے کم تین ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے۔

اس سے کم کفایت نہیں کرے گا، اگر صفائی کے لئے تین ڈھیلا سے زیادہ کی ضرورت ہو تو زیادہ استعمال کرنا چاہئے البتہ مستحب ہے کہ جگہ صاف ہونے کے بعد طاق پر بند کرے۔ (۱)

ڈھیلا استعمال کرنے کے دلائل سابقہ سطور میں گزر چکے ہیں پانی استعمال کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (کان رسول اللہ یدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فیستنجدی بالماء) (۲) اللہ کے رسول ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو میں، اور ایک میرا ہم عمر لڑکا پانی کا ایک چھوٹا سا برتن اور نیزہ لے کر آپ ﷺ کے ہمراہ جاتے

تھے

(۱) بیہقی، ترمذی، ابوداؤد، تہذیب السنن، ۵/۲۰۰

، اس پانی سے آپ ﷺ استنجاء کرتے تھے۔

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: یہ آیت کریمہ (فیہ درجات یحبون أن یبتطروا) (۱) اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ پانی سے استنجاء کرتے تھے۔ (۲)

۱۷۔ پتھر اور ڈھیلا استعمال کرنے کی صورت میں طاق پر ختم کرے!

جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ومن استجمر فلیوتر) (۳) جو ڈھیلا استعمال کرے اسے طاق استعمال کرنا چاہئے۔

۱۸۔ استنجاء کرنے کے بعد ہاتھ زمین پر رگڑ لے پھر دھلے!

جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (أن النبی ﷺ قضی حاجتہ ثم استنجی من تودر ثم ذلك یدہ بالارض) اللہ کے رسول ﷺ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ ﷺ نے ایک پیالہ سے استنجاء کیا، پھر زمین پر اپنے ہاتھ کو رگڑا (اور دھلا) (۴)۔

۱۹۔ دفع و سوسہ کے لئے قضائے حاجت کے بعد اپنی شرمگاہ اور پا جاے پر چھیننا مارے!

(۱) سورہ توبہ آیت ۱۰۸

(۲) صحیح، صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب الاستنجاء بالماء، ج (۴۳) ابن ماجہ (۳۵۷)

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب الاستنجاء، ج (۱۶۲) مسلم (۲۳۷)

(۴) حسن، صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب الریح یدک یدہ بالارض اذا استنجی، ج (۴۵) ابن ماجہ (۳۵۸)

جیسا کہ حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (کمان رسول اللہ ﷺ اذا بال يتوضأ وينتضح) (۱) اللہ کے رسول ﷺ جب پیشاب کرتے تو وضوء فرماتے اور (شرمگاہ پر) چھینٹا مارتے۔

۲۰۔ بقدر ضرورت حمام میں ٹھہرے!

کیونکہ بلا ضرورت شرمگاہ کا کھلا رکھنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح بیت الخلاء شیاطین کا مسکن ہوتا ہے، نیز انسان بیت الخلاء میں زبان سے ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا قضائے حاجت کے فوراً بعد بیت الخلاء سے نکل جانا چاہئے (۲)۔

۲۱۔ مستحب ہے کہ مرد وزن ایک دوسرے کے طہارت سے بچے ہوئے پانی

سے طہارت نہ کریں

کیونکہ (نہی رسول اللہ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغتربا جميعا) (۳) اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے، اور مرد عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، بلکہ دونوں کو بیک وقت چلو لینا چاہئے۔

(۱) صحیح مسنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب فی الاغتصاص، ج (۱۶۶)۔

(۲) دیکھئے شرح صبح ۱۰۱/۱۔

(۳) صحیح مسنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب لہمی عن ذک ح (۸۱) التسانی ح (۲۳۸)۔

یہ ممانعت مکروہ تتر یہی ہے، کیونکہ بعض حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا ہے (۱)۔

اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کی ایک بیوی (میمونہ رضی اللہ عنہا) نے ایک لگن سے غسل کیا، پھر آپ ﷺ تشریف لائے اور بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ﷺ میں جنبی تھی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ان الماء لا یجنب) (۲) پانی جنبی نہیں ہوتا ہے۔

یہ کراہت بھی بلا ضرورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے میں ہے، اگر ضرورت پیش آجائے تو کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ (۳)

۲۲۔ بیت الخلاء سے نکلنے وقت دائیں قدم سے نکلے اور (غفرانک) کہے۔

جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلے تھے تو (غفرانک) کہتے تھے۔ (۴)

(۱) مسلم کتاب البیض باب قدر المسجد من الماء فی غسل الجنۃ ح (۳۲۳)۔

(۲) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب الماء لا یجنب ح (۶۸) مسند امام احمد ۲۲۵۵ نسائی ح (۲۲۵-۲۲۶)۔

(۳) اسی کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بلوغ الحرام کی شرح میں راجح قرار دیا ہے نیز دیکھئے شرح صحیح بھی ۳۶۱۔

(۴) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء ح (۳۰) ترمذی ح (۷) ابن ماجہ ح (۳۰۰)۔

وضوء کا بیان

پانچویں فصل

ارتین امور کے لئے وضوء ضروری ہے۔

۱۔ نماز

مطلقاً ہر نماز کے لئے وضوء کرنا واجب ہے، خواہ فرض ہو، یا نفل ہو، یا جنازہ کی نماز ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَدْجُلْكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (۱) اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔

۲/ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (۲) جب تم میں سے کوئی بے وضوء ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک نہیں قبول کرتے ہیں جب تک کہ دوبارہ وضوء نہ کرے۔

۳/ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا

(۱) سورۃ المائدہ آیت ۶۔

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ح (۱۳۵) مسلم ح (۲۲۵)

تقبل صلاة بغیر طہود ولا صدقة من غلوا) (۱) بغیر وضوء کے کوئی نماز نہیں قبول ہوتی ہے، اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔

۴؎ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (۲) طہارت نماز کی کنجی ہے، اور اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے (یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کے منافی تمام امور کا ارتکاب کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے تمام (مباح) چیزیں حلال ہو جاتی ہیں)۔

۲۔ بیت اللہ کا طواف

بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے وضوء ضروری ہے جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الطواف بالبيت صلاة...) (۳) بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، اسی طرن جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوران حج حیض آیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (افعلی ما يفعل الحاج غیر أن لا تطوفی بالبيت حتی تطهری) (۴) وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں، البتہ پاک صاف ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔

(۱) مسلم، کتاب الطہارة باب وجوب الطہارة للصلاة ح (۲۲۳)

(۲) حسن صحیح، مجمع سنن ابوداؤد کتاب الطہارة باب فرض الوضوء ح (۶۱) وترغی (۳)

(۳) مجمع صحیح سنن الترمذی کتاب المناکب باب اباحة الكلام فی الطواف ح (۲۹۲۲) وترغی (۹۶۰) وابن خزیمہ ۲۲۲

(۴) بخاری، کتاب الحیض، باب تعصی المناکب کلام الطواف ح (۳۰۵) و مسلم ح (۱۲۱۱)

۳۔ مصحف کا چھونا:

مصحف چھونے کے لئے وضوء ضروری ہے، جیسا کہ عمرو بن حزم، حکیم بن حزام، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یمس القرآن الا طاهر) (۱) قرآن کو صرف پاک ہی ہاتھ لگائے۔

وضو کی فضیلت

فضیلت وضوء کے متعلق بہت ساری حدیثیں مروی ہیں جن میں سے چند حدیثیں ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں:

۱/ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ان امتی یأتون بومر القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء) (۲) میری امت کے لوگ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضوء کے اثر سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔

۲/ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مکمل وضوء کرنے کے بعد فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو اسی طرح وضوء کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: (من

توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی ذکرعتین لا یحدث فیہما

(۱) مؤطا امام مالک، کتاب القرآن، باب لا یراب الوضوء لمن مس القرآن ح (۱) والدارقطنی ح (۳۳۱-۳۳۳) دو حاکم اور ۱۳۹ اور ابانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارواہ الغلیل ۱۵۸۔ نیز ملاحظہ ہو: تلخیص الخیر لابن حجر ۱۳۱۔ اور شرح صحیح ۲۶۱/۱۔

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والفرغی ح (۱۳۶) و مسلم ح (۳۲۶)

نفسہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ) (۱) جس نے میرے وضوء کی طرح وضوء کیا، پھر دنیاوی خیالات و وساوس سے دور رہتے ہوئے، دو رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔

۳ نیز عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا: (لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلى صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) (۲) جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضوء کرتا ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس کے بعد آنے والی نماز کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔

۴ نیز عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله) (۳) جب کوئی مسلمان کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے، پھر اچھی طرح وضوء کرتا، اچھی طرح خشوع کے ساتھ، رکوع کے ساتھ اسے ادا کرتا ہے، تو یہ نماز اسکے سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے،

(۱) بخاری، کتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، ح (۱۶۳) مسلم ح (۲۲۶)۔

(۲) مسلم، کتاب الطہارۃ باب فضل الوضوء، والصلوة عقبہ ح (۲۲۷)۔

(۳) مسلم، کتاب الطہارۃ باب فضل الوضوء، والصلوة عقبہ ح (۲۲۸)۔

جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔

۵۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ما

من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ لا ینزلہ یقوم بصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنة) (۱) جو مسلمان بھی اچھی طرح وضوء کرتا ہے، اور پھر چہرے اور دل کی یکسوئی سے دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے۔

۶۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جب بندہ مسلم یا بندہ مومن وضوء کرتا ہے، اور چہرہ کو دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جسے اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، اور جب وہ اپنے پیر کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جہاں اس کے پیر چل کر گئے تھے۔ یہاں تک وہ گناہوں سے مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ (۲)

۷۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من

(۱) مسلم، کتاب الطہارۃ باب ذکر استحب عقبہ الوضوء ح (۲۳۳)

(۲) مسلم، کتاب الطہارۃ باب خروج النظا یا مع ماء الوضوء ح (۲۳۴)

توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياها من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) (۱) جو شخص اچھی طرح وضوء کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے نکلتے ہیں۔

۸۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کو بلند کر دے، صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ﷺ تو آپ نے فرمایا: ناپسندیدہ اوقات میں وضوء مکمل کرنا، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ (۲)

وضوء کرنے کا کامل طریقہ

فرائض، واجبات، اور مستحبات پر مشتمل وضوء کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

۱۔ دل سے وضوء کی نیت کرے!

عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (انما الأعمال بالنیات) (۳) اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

(۱) مسلم، کتاب الطہارۃ باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، ج (۲۳۵)۔

(۲) مسلم، کتاب الطہارۃ باب فضل الوضوء علی المکارم، ج (۲۵۱)۔

(۳) بخاری، کتاب بداء الوجہ، باب کیف کان بداء الوجہ انی رسول اللہ ﷺ، ج (۱)، مسلم، ج (۱۹۰)۔

زبان سے نیت نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے کبھی بھی زبان سے نیت نہیں کی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین حال دل سے اچھی طرح واقف ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ بسم اللہ کہے!

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (۱) اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے وضوء نہ کیا ہو، اور اس شخص کا وضوء نہیں ہوتا جو اس کے شروع میں اللہ کے نام کا ذکر نہ کرے۔

۳۔ تین مرتبہ ہتھیلی کو دھلے!

جیسا کہ عبد اللہ بن زید (۲) اور عثمان رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے (۳)

۴۔ ایک ہی چلو میں دائیں ہاتھ سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے (۳)، اسی طرح تین بار تین چلو پانی سے کرے جیسا کہ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (۴)، کامل وضوء کرے، اگر روزہ سے نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے، جیسا کہ لقیط بن صبرہ کی حدیث میں ہے (۵)

(۱) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی التسمیۃ علی الوضوء ح (۱۰۱) و ترمذی (۲۵) وابن ماجہ (۳۹۸-۳۹۹)۔

(۲) بخاری، کتاب الوضوء باب مسح علی الرأس کلہ ح (۱۸۵) و مسلم ح (۲۳۵)۔

(۳) بخاری، کتاب الوضوء باب المغسۃ فی الوضوء ح (۱۶۳) و مسلم ح (۲۲۶)۔

(۵) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی الاستنار ح (۱۳۲)۔

وضوء کے لئے مسواک کرے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں گزرا (۱)

۵۔ تین بار چہرہ کو کان سے لے کر کان تک چوڑائی میں اور بال نکلنے کی جگہ سے

لے کر داڑھی اور ٹھوری کے نیچے تک لہائی میں دھلے جیسا کہ عبد اللہ بن زید اور عثمان رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، داڑھی کا خلال کرے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (۲)

۶۔ پھر داہنے ہاتھ کو انگلیوں کے سرے سے لے کر کہنیوں سمیت تین مرتبہ

دھلے (۳)، ہاتھ کو ملے (۴) انگلیوں کے درمیان خلال کرے (۵)، پھر بائیں ہاتھ کو بھی داہنے ہاتھ کی طرح دھلے۔

۷۔ پھر ایک بار سر کا مسح کرے، ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سر کے اگلے

حصہ سے شروع کرے گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے اسی جگہ واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا (۶)، دونوں ہاتھ کے انگشت شہادت کو کان کے اندرونی حصہ میں ڈالے،

(۱) بخاری نے کتاب الصیام، باب السواک الرطب میں اس حدیث کو معلق صیف جزم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حزم وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب تحلیل اللہیح (۱۰۱) و ترمذی (۱۳۵) و ابن ماجہ (۳۳۱)

(۳) جیسا کہ حمران بن عثمان اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے جس کی تخریج گزر چکی ہے، کہنیوں کے دھلنے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے (وضوء میں ہاتھ کو دھلا یہاں تک آپ نے بازو کو بھی دھلا) مسلم (۲۳۶)

(۴) صحیح ابن خزیمہ ج ۶ ص ۱۱۸ (۱۱۸) حاکم ۱۶۱

(۵) جیسا کہ لقیط بن صبرہ کی حدیث میں ہے۔ صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی الاستنار (۱۳۲)

(۶) جیسا کہ حمران بن عثمان اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے جس کی تخریج گزر چکی ہے

اور انگوٹھوں سے کان کے بالائی حصہ کا مسح کرے۔ (۱)

۸/ پھر اپنے داہنے پاؤں کو انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھلے، (۲) انگلیوں کا خلال کرے (۳) پھر بائیں پاؤں کو بھی داہنے پاؤں کی طرح دھلے

۹۔ پھر یہ دعاء پڑھے

((اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
(۴)، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين. (۵) سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا
أنت استغفرک وأتوب اليک)) (۶) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا
ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، اے اللہ ہمیں زیادہ توبہ کرنے
والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری
تعریف کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں
تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔

(۱) دیکھئے سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب صفۃ وضوء النبی ﷺ ح (۱۲۱-۱۲۳) دونوں حدیثوں کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔

(۲) جیسا کہ عمران بن عثمان اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے جس کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۳) جیسا کہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جس کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۴) مسلم کتاب الطہارۃ باب الذکر المستحب عقب الوضوء ح (۲۳۳)۔

(۵) صحیح سنن ترمذی، کتاب الطہارۃ باب فیما یتقال بعد الوضوء ح (۵۵)۔

(۶) نسائی عمل الیوم واللیلۃ ح (۸۱) نیز دیکھئے ارواہ الغلیل ۱/۱۳۵۔

۱۔ جس نے مذکورہ طریقہ کے مطابق وضوء کیا، پھر دنیاوی خیالات و وساوس سے پاک دو رکعت نماز پڑھی، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں ہے (۱) اور جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ما من مسلم یتوضأ فی حسن وضوء لا ثم یقوم یصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبه ووجہہ الا وجبت له الجنة) (۲) جو مسلمان بھی اچھی طرح وضوء کرتا ہے، اور پھر چہرے اور دل کی یکسوئی سے دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے۔

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بلال بتاؤ حالت اسلام میں تم نے کون سا (نفلی) عمل کیا ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تمہارے جو توں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے زیادہ پر امید عمل ہم نے کوئی نہیں کیا کہ جب بھی میں رات یا دن میں وضوء کرتا ہوں تو جتنی اللہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ (۳)

(۱) بخاری ج (۱۶۳)؛ مسلم ج (۲۲۶)۔

(۲) مسلم ج (۲۳۳)۔

(۳) بخاری ج (۱۱۳۹)؛ ابن ماجہ ج (۱۱۳۹)؛ مسلم ج (۲۳۵۸)۔

وضوء کے فرائض و ارکان

فرائض وضو اور ارکان وضوء دونوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ انہیں فرائض کے ذریعہ وضوء کی ماہیت تشکیل پاتی ہے اور جن اقوال و افعال کے ذریعہ کسی چیز کی ماہیت تشکیل پائے اسے اس کو ارکان کہتے ہیں۔ (۱)

فرائض وضوء چھ ہیں:

۱۔ چہرہ کا دھلنا

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (۲) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو دھو لو۔

چہرہ کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ درج ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔

الرقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (والبالغ فإلى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (۳) اور ناک میں (وضوء کرتے ہوئے) پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو والا کہ تم روزہ سے ہو۔

(۱) دیکھئے الشرح لمجمع لابن عثيمين ۱۳۷۱-۱۳۸۱۔

(۲) سورہ مائدہ آیت: ۶۔

(۳) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی الاستنشاق (۱۳۲)

ب/ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا تَوَضَّأْتُ فَمُضْمَضٌ) (۱) جب تم وضوء کرو تو کلی کرو
ج/ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ) (۲) جو وضوء کرے اسے چاہئے اپنے ناک کو (پانی ڈال کر) جھاڑے

در اللہ کے رسول ﷺ ہمیشہ وضوء میں کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے تھے

۲۔ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔
پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دھلے۔

ار ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (۳) اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدُوا بِمِائِمَتِكُمْ) (۴) جب تم وضوء کرو تو پہلے اپنے دائیں طرف سے شروع کرو!

(۱) صحیح بخاری، ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی الاستنثار ح (۱۳۳)

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب الاستنثار فی الوضوء ح (۱۶۱) و مسلم ح (۲۳۰)

(۳) سورہ مائدہ آیت ۶

(۴) صحیح بخاری، ابوداؤد کتاب اللباس باب فی الاتصال ح (۴۱۴) ابن ماجہ ح (۴۰۲)

۳۔ پورے سر کا مسح کرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (۱) اور اپنے سروں کا مسح کرو، سر کے مسح کرنے میں کان کا مسح کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الاذن ان من الرأس) (۲) دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

اسی طرح آپ ﷺ نے ہمیشہ کان کا مسح کیا ہے۔

سر پر مسح کرنے کا تین طریقہ ہے:

۱۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (أن النبی ﷺ مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الی قفاه ثم رددهما الی المكان الذی بدأ منه) (۳) اللہ کے رسول ﷺ نے سر کا مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے یعنی سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے گدی تک لے گئے، اور پھر وہاں سے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا

(۱) سورہ مائدہ آیت: ۶

(۲) صحیح صحیح سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ باب الاذن ان من الرأس ح (۲۳۹) تفصیل کے لئے دیکھئے ارواء الغلیل ح (۸۳) صحیح ح (۳۶)

(۳) بخاری ح (۱۸۵) و مسلم ح (۲۳۵) اس حدیث تخریج گزر چکی ہے

۲۔ صرف پگڑی پر مسح کرنا

اگر سر پر مضبوط پگڑی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں جیسا کہ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے باپ سے مروی ہے کہ (ادایت درسول اللہ ﷺ یمسح علی عمامتہ وخفیہ) (۱) میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا،، البتہ صرف پگڑی یا پگڑی اور پیشانی دونوں پر مسح کرنے کے وہی شرائط ہیں جو موزہ پر مسح کرنے کے ہیں، یہی قول علامہ ابن باز اور ابن تیمیہ رحمہما اللہ کا ہے۔ (۲)

۳۔ پگڑی اور پیشانی دونوں پر مسح کرنا

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (أن النبی ﷺ توضأ ومسح بनावبیتہ وعلی العمامة وعلی خفیہ) (۳) اللہ کے رسول ﷺ نے وضوء کیا اور پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔

اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (أن النبی مسح علی الخفین والخمار) (۴) اللہ کے رسول ﷺ نے (وضوء کیا) اور موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔

(۱) بخاری، کتاب الوضوء باب المسح علی الخفین ح (۲۰۳-۲۰۵) نیز دیکھئے زاد المعاد ۱/۱۹۹

(۲) دیکھئے شرح عمدہ لابن تیمیہ ص (۲۷۱)

(۳) مسلم، کتاب الطہارة باب المسح علی الخفین ح (۲۷۴)

(۴) مسلم، کتاب الطہارة باب المسح علی الخفین ح (۲۷۵)

۳۔ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھلنا

ار ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَأرجلكم الی الکعبین﴾ (۱) اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔

نیز اللہ کے رسول ﷺ ہمیشہ وضوء میں پیر دھلتے تھے، پیر کے دھلنے میں ایڑی کے دھلنے کا خاص اہتمام کرنا چاہئے:

ابو ہریرہ، عائشہ اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے (ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضوء کیا، لیکن اس کی ایڑی نہیں بھیگی تھی تو آپ نے) فرمایا: (ویل للاعقاب من النار) (۲) ایڑی والوں کے لئے جہنم کی ویل ہے۔

مذکورہ چاروں فرانس وضوء کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرجلكم الی الکعبین﴾ (۳) اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، اپنے سر کو مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔

(۱) سورہ مائدہ آیت ۶

(۲) بخاری، کتاب العلم، باب من رفع صوتہ بالعلم ج (۲۰)، ج (۹۶)، ج (۱۲۳) و مسلم ج (۳۴۱)

(۳) سورہ مائدہ آیت ۶

۵۔ اعضاء وضوء کے دھلنے میں ترتیب

مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اعضاء وضوء کے دھلنے میں ترتیب کا خیال رکھنا فرض ہے

۱۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اعضاء وضوء کو بالترتیب ذکر کیا ہے، بایں طور کہ مسح کرنے والے اعضاء کو دھونے والے اعضاء کے درمیان ذکر کیا ہے، اگر یہاں ترتیب مقصود نہ ہوتی، تو پہلے دھونے والے اعضاء کو ذکر کیا جاتا، پھر مسح کرنے والے کو یا اس کے برعکس۔

ب۔ آپ ﷺ نے ہمیشہ بالترتیب ہی وضوء کیا ہے۔

ج۔ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے: (ابدؤا بما بدأ اللہ) (۱) تم اسی سے شروع کرو جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔

۶۔ موالات:

موالات سے مراد بلا فصل پے در پے اعضاء وضوء کا دھلنا ہے، بایں طور کہ ایک عضو کو دھلنے کے بعد دوسرے عضو کے دھلنے میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضوء کیا اور اپنے پیر پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دیا ہے تو

(۱) مسلم، کتاب الحج، باب جزاء الجنائز ح (۱۲۱۸)

آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: (ادرجع فأحسن وضوءك) (۱) واپس جا کر اچھی طرح وضوء کرو چنانچہ وہ واپس گئے (وضوء کیا) پھر نماز پڑھی۔

اور سنن ابوداؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس کے پیر میں ایک درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی جہاں وضوء کرتے ہوئے پانی نہیں پہنچا، تھا تو آپ ﷺ اسے وضوء اور نماز دونوں لوٹانے کا حکم دیا۔ (۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موالات فرض ہے کیونکہ اگر موالات فرض نہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے صرف اسی جگہ کو دھل لینے کا حکم دے دیتے۔ (۳)

وضوء کے شرائط

وضوء کے شرائط دس ہیں:

- ۱۔ اسلام۔ ۲۔ عقل۔ ۳۔ تیز سن۔ ۴۔ نیت۔ ۵۔ وضوء کے ختم ہونے تک نیت وضوء کا استمرار۔ ۶۔ موجب وضوء کا ختم ہونا۔ ۷۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضوء سے پہلے استنجاء کرنا یا ڈھیا استعمال کرنا۔ ۸۔ پانی کا پاک اور مباح ہونا۔ ۹۔ چمڑے پر پانی پہنچنے سے مانع چیز کا ازالہ۔ ۱۰۔ سلس البول جیسی بیماری والوں کے لئے فرض نماز کا وقت داخل ہونا۔ (۴)

(۱) مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استیعاب جمیع أجزاء کل الطہارۃ ح (۲۳۳)۔

(۲) صحیح بخاری، سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب تفریق الوضوء ح (۱۷۵) تفصیل کے لئے دیکھئے اردو الغلیل ح (۱۲۷)۔

(۳) دیکھئے منار السبیل ۲۴۲ شرح المصحح ۱۳۸، والروض المرعب حافیہ ابن القاسم ۱۸۱، والعمی لابن قدامہ ۱۵۵، وسؤالات شیخ محمد بن عبد الوہاب جلد اول و فتاویٰ شیخ ابن باز ۲۹۳۔

(۴) دیکھئے ابن شراکین شرح الروض المرعب حافیہ ابن القاسم ۱۸۹، ۱۹۳، وسؤالات شیخ محمد بن عبد الوہاب ج ۲، اور فتاویٰ شیخ ابن باز ۳۹۳۔

وضوء کی سنتیں

۱۔ مسواک کرنا:

وضوء کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (۱) اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

ب۔ وضوء کے شروع میں ہتھیلیوں کا دھلنا:

وضوء کے شروع میں ہتھیلیوں کا دھلنا سنت ہے، البتہ نیند سے بیدار ہونے والے کے لئے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھلنا واجب ہے۔ (۲)

ج۔ اعضاءِ وضوء کا ملنا:

اعضاءِ وضوء کا ملنا سنت ہے، عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس (وضوء کے لئے) مد کا دو تہائی حصہ پانی (وضوء کے لئے) لایا گیا تو آپ اس سے اپنے ہاتھ ملنے لگے۔ (۳)

(۱) بخاری نے کتاب الصیام، باب السواک الربط۔ میں اس حدیث کو مطلق سینہ جزم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حزم وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) بخاری ج (۱۶۲) و مسلم ج (۱۱۸) آداب قضاء حاجت میں اس حدیث کی تخریج مکرر کی ہے۔

(۳) ابن خزیمہ ج (۱۱۸) حاکم ۱۶۱/۱ صفت وضوء میں اس حدیث کی تخریج مکرر کی ہے۔

د۔ اعضاءِ وضوء کا تین تین بار دھلنا:

اعضائے وضوء کا تین تین بار دھلنا سنت ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن زید کی سابقہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔

آپ ﷺ سے اعضاءِ وضوء کا تین تین بار دھلنا ثابت ہے اور یہی عموماً آپ ﷺ کا معمول تھا، اسی طرح دو دو بار، (۱) اور ایک ایک بار (۲) بھی ثابت ہے اسی طرح ایک ہی وضوء میں کبھی آپ ﷺ سے بعض اعضاء کا دو بار اور بعض اعضاء کا ایک بار دھلنا بھی ثابت ہے۔ (۳)

ھ۔ وضوء کے بعد دعا کا پڑھنا:

وضوء کے بعد دعا کرنا سنت ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں گزرا ہے۔ (۴)

و۔ تحیۃ الوضوء پڑھنا:

وضوء کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضوء پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان، عقبہ بن عامر اور بلال رضی اللہ عنہم کی کی سابقہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ (۵)

(۱) بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء مرتین مرتین ح (۱۵۸)

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء مرۃ مرۃ ح (۱۵۷)

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب مسح الرأس کلح (۱۸۵) و مسلم ح (۲۳۵)

(۴) مسلم ح (۲۳۳) صفت وضوء میں اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے

(۵) بخاری، کتاب التمجید، باب فضل الطهور باللیل، انخارج (۱۱۳۹) و مسلم ح (۲۳۵۸)

ز۔ وضوء کو کامل کرے، اور پانی استعمال کرنے میں اسراف سے بچے!

ایک مسلمان کے لئے بہتر ہے کہ وضوء میں اعضاء کو تین تین بار دھلے، اور وضوء اور غسل میں پانی استعمال کرنے میں اسراف اور حد سے تجاوز کرنے سے بچے۔

ارعائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک فرق برتن سے غسل جنابت فرماتے تھے۔ (۱)

سفیان کہتے ہیں ایک فرق تین صاع (۲) کا ہوتا ہے۔ (۳)

ب۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک صاع سے لے کر پانچ مد میں غسل فرماتے تھے۔ (۴)

ج رعاائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اور میں ایک ہی برتن سے غسل کرتے، جس میں تقریباً تین مد یا اس کے قریب پانی ہوتا تھا۔ (۴)

ام عمارہ (۵) عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما (۶) سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس (وضوء کے لئے) مد کا دو تہائی حصہ پانی (وضوء کے لئے) لایا گیا تو

(۱) مسلم، کتاب الجھض، باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابۃ، ج (۳۱۹)۔

(۲) ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے اور ایک مد معاصر وزن کے اعتبار سے (۶۲۵) گرام کا ہوتا ہے، ہاں طوراً ایک صاع معاصر وزن کے اعتبار سے (۲۵۰۰) اور ایک فرق (۵۰۰) گرام کا ہوگا مترجم

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء بالماء ج (۳۰۱) و مسلم ج (۳۲۵)۔

(۴) مسلم، کتاب الجھض، باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابۃ ج (۳۲۱)۔

(۵) صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب ما یجوز من الماء فی الوضوء ج (۹۳)۔

(۶) ابن خزیمہ، ج (۱۱۸) و حاکم، ج (۱۶۱)۔

آپ اس سے اپنے ہاتھ ملنے لگے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، اللہ کے رسول ﷺ نے وضاحت فرمادی ہے کہ وضوء میں ایک ایک بار دھلنا فرض ہے، اسی طرح آپ ﷺ سے ایک ایک بار اور دو بار دھلنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ ﷺ نے کبھی تین بار سے زیادہ نہیں دھلا ہے، اسی وجہ سے علماء کے نزدیک پانی میں اسراف کرنا اور غسل نبی ﷺ سے تجاوز کرنا حرام ہے (۱)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سابقہ روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف (اعضاء کے دھلنے کے بارے میں وارد عدد) اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف حالات میں آپ ﷺ نے بقدر ضرورت اعضاء وضوء کو دھلا ہے۔ (۲)

آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ کمال وضوء کے ساتھ پانی استعمال کرنے میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک رات میں اپنی خانہ میمونہ کے گھر سویا ہوا تھا، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو دیکھا کہ، آپ ﷺ اٹھے اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ سے ہلکا سا وضوء کیا، اور نماز پڑھنے لگے۔ (۳)

بہر حال تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ آپ ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی استعمال کرنے میں میانہ روی اختیار کریں، اسراف اور فضول خرچی سے بچیں۔

(۱) دیکھئے بخاری، کتاب الوضوء، باب ما جاء فی الوضوء مع فتح الباری ۲۳۲۱

(۲) دیکھئے فتح الباری ۳۰۵۱۔

(۳) بخاری، کتاب الوضوء، باب تخفیف فی الوضوء (۱۳۸)

عمرو بن شعیب عن ابي عن جده رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا جسے آپ نے تین تین بار وضوء کر کے دکھایا، پھر فرمایا: یہی وضوء کا طریقہ ہے جس نے اس سے زیاہ کیا، اس نے برا کیا حد سے تجاوز کیا، اور ظلم کیا۔ (۱)

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہونگے جو طہارت اور دعاء میں حد سے تجاوز کریں گے (۲)

وضوء توڑنے والی چیزیں

۱۔ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ سے نکلنے والی چیزیں:

جیسے پیشاب، پاخانہ، (۳) ہوا (۴)، مذی (۵)، ووی، منی (۶)، ابن قدامہ رحمہ اللہ

(۱) حسن، صحیح نسائی، کتاب الطہارۃ، باب الاعتداء فی الوضوء، ح (۱۳۰) وابن ماجہ ح (۳۲۲) و احمد ح (۱۸۰۲)۔

(۲) صحیح ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الماء، ح (۹۶)۔

(۳) جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (أو جاء أحد مسکرم من العانط) سورہ مائدہ آیت ۶۔ اور صفوان بن مسہال رضی اللہ

عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (ولکن من غانط دیول و نومر) (لیکن پاخانہ، پیشاب اور سونے سے

موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے) مسند امام احمد ح (۳۳۰) و ترمذی ح (۹۶) وابن ماجہ ح (۳۷۸) شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے دیکھئے

صحیح سنن ترمذی ح (۳۰)۔ منی یہ مذکورہ چیزیں گرچہ ناقض وضوء ہیں لیکن ان سے موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وضوء کرتے وقت اس

پر سب کر لینا کافی ہے

(۴) جیسا کہ آپ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے دوران نماز شیطان یہ وسوسہ لایا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوگی ہے (لا یبصر صرف

حنی بسمع صونا أو یحد دحاً) کہ اس وقت تک سجدت نہ نکلے جب تک آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے (اس سے معلوم ہوا

کہ ہوا ناقض وضوء ہے) دیکھئے بخاری، ح (۱۳۷) و مسلم ح (۳۶۱)۔

(۵) جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں ہے۔

(۶) جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (منی، مذی، ووی، ان میں سے منی میں غسل ہے اور مذی اور ووی میں کامل وضوء

کرتا ہے)۔ دیکھئے معنی لابن قدامہ ح (۲۳۳)۔

ہو جائے، البتہ پاخانہ پیشاب اور نیند سے (نکالنے کی ضرورت نہیں ہے)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی منجملہ تمام نواقض وضوء میں سے ایک ناقض ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے اسے بول و براز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جو اس کے ناقض ہونے کے لئے قطعی ثبوت ہے۔

نیند کے علاوہ دوسرے جتنے بھی عقل کے زائل ہونے کے اسباب ہیں جیسے جنون، بے ہوشی، نشہ، یا مخدر عقل دوائیاں ان سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ (۱)۔

۴۔ بلا پردہ شرمگاہ (قبل و دبر) کا چھونا

بلا پردہ شرمگاہ (قبل و دبر) کو چھونے سے مندرجہ ذیل دلائل کی وجہ سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے:

۱۔ جابر اور بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من مس ذكره فليتوضأ) (۲) جو اپنے آگے تناسل کو چھوئے وہ وضوء کرے۔

۲۔ ام حبیبہ اور ابوالایوب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ، میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (من مس فرجه فليتوضأ) (۳) جو اپنے شرمگاہ کو

(۱) دیکھئے مفتی لابن تہامہ ۲۳۴

(۲) بسرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ابوداؤد نے کتاب الطہارۃ باب الوضوء من مس الذکر ح (۱۶۳) و ترمذی ح (۸۲) ابن ماجہ ح (۳۷۹) روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے ویکھے ارواء الغلیل ح (۱۱۶) اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الطہارۃ و سنہا، باب الوضوء من مس الذکر ح (۳۹۰) میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، دیکھئے صحیح ابن ماجہ ح (۳۸۳)

(۳) ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور ابوالایوب کی حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الطہارۃ و سنہا، باب الوضوء من مس الذکر میں با ترتیب ح (۳۹۱) ح (۳۸۲) روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح ابن ماجہ ح (۳۸۲) و ح (۳۸۷)

چھوئے وہ وضوء کرے!

ج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا افضى أحدكم ريده السى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ) (۱) جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو بلا پردہ چھوئے تو وہ وضوء کرے! آگے تناسل کی طرح حلقہ دبر (پاخانہ نکلنے کی جگہ) بھی ہے لہذا حلقہ دبر بھی چھونے سے وضوء ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

۵۔ اونٹ کا گوشت کھانا:

اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول ﷺ سے سوال کیا: کیا بکری کا گوشت کھانے سے ہم وضوء کریں؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا اگر چاہو تو وضوء کرو اور اگر چاہو تو وضوء نہ کرو، پھر اس نے سوال کیا: کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے ہم وضوء کریں؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے تم وضوء کرو۔ (۳)

(۱) ابن حبان کما فی الموارد ح (۲۱۰)، ودارقطنی ار ۱۳۷، سنن البیہقی ار ۱۳۳، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر کہا ہے کہ ابن حبان کی سند جید ہے، مطلق کی حدیث کے بارے میں بلوغ المرام کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ شروع اسلام میں عضو تناسل کے چھونے سے وضوء نہیں ٹوٹتا تھا، پھر حدیث بسرہ کے ذریعہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بسرہ کی حدیث مطلق کی حدیث سے راجح ہے، لہذا عضو تناسل کے چھونے سے وضوء ٹوٹ جائے گا۔

(۲) دیکھئے الشرح لمصحح لاہن شمیم رحمہ اللہ ۲۳۲

(۳) بخاری، کتاب الخیض، باب الوضوء من لجم الاہل ح (۳۶۰)۔

۶۔ اسلام سے مرتد ہونا:

معاذ اللہ اگر کوئی وضوء کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، تو اس کا وضوء ٹوٹ جائے گا کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۱) منکر ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور وہ آخرت میں گھانا اٹھانے والوں میں سے ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَشْرَكَتْ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (۲) اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔

میت کے غسل دینے کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس سے وضوء نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پردہ پڑ جائے، تو اس سے ٹوٹ جائے گا، اور اس پر دو بارہ وضوء کرنا واجب ہوگا، غسل دینے والے کو اس بات کا از حد احتیاط کرنا چاہئے کہ اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پردہ نہ پڑنے پائے۔

اسی طرح شہوت بلا شہوت عورت کو چھونے سے بھی وضوء نہیں ٹوٹتا ہے، تا وقتیکہ شرمگاہ سے کسی چیز کا اخراج نہ ہو کیونکہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ وضوء کرنے کے بعد اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا اور پھر نماز پڑھ لی، دو بارہ وضوء نہیں کیا۔

رہی یہ آیت کریمہ (أُولَئِكَ الْمَسْتَمِرَّةُ) (۳) تو اس میں لمس سے مراد جماع ہے نہ کہ چھونا جیسا کہ عبد اللہ بن عباس اور علماء کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ (۴)

(۱) سورہ مائدہ آیت ۶۰

(۲) سورہ زمر آیت ۲۵

(۳) سورہ النساء آیت ۳۳

(۴) مجموع فتاویٰ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ ۳/۳۹۲، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ۱/۲۳۶-۲۳۶

جن امور کے لئے وضوء کرنا مستحب ہے:

۱۔ اللہ کے ذکر کے لئے:

اللہ کا ذکر کرنے کے لئے وضوء کرنا مستحب ہے، ابو موسیٰ نے اللہ کے رسول ﷺ کو ابو عامر کے بارے میں خبر دی، اور کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، تو آپ ﷺ نے پانی منگایا اور وضوء کیا پھر دست مبارک کو اٹھا کر یہ دعا کی (اللهم اغفر لعبيد ابى عامر) اے اللہ اپنے بندہ ابو عامر کی مغفرت فرمادے۔ (۱)

ب۔ سوتے وقت:

وضوء کر کے سونا مستحب ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة نثر اضطجع على شقك الايمن) (۲) جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو نماز کی طرح وضوء کرو، پھر اپنے داہنے کپوٹ سوؤ۔

۳۔ وضو ٹوٹنے کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

ایک دن صبح کے وقت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریا یافت کیا، اے بلال کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے جنت میں آگے بڑھ گئے، میں گزشتہ رات جب (عالم خواب میں) جنت میں داخل ہوا

(۱) بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة أوطاس ج (۲۳۲۳) و مسلم ج (۲۳۹۸)۔

(۲) بخاری، کتاب الدعوات، باب اذا بات طاهراً، ج (۶۳۱۱) و مسلم ج (۲۴۱۰)۔

تو تمہارے چلنے کی آہٹ کو اپنے سامنے سنی، تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ جب بھی میں نے اذان دیا تو دو رکعت نماز پڑھی، اور جب بھی مجھے حدیث لاحق ہوئی تو میں نے فوراً وضو کر لیا۔ (۱)

۴۔ ہر نماز کے وقت:

ہر نماز کے وقت وضوء ہونے کے باوجود تجدید وضو کرنا سنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لولا أن أشق على امتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) (۲) اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے وقت وضوء کرنے کا، اور ہر وضوء کے ساتھ سواک کرنے کا حکم دیتا۔

۵۔ مردہ اٹھانے کے بعد:

مردہ اٹھانے کے بعد وضوء کرنا سنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ) (۳) جو مردہ کو نہلائے وہ غسل کرے اور جو مردہ کو اٹھائے وہ وضوء کرے۔

(۱) سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ ح (۳۶۸۹) و مسند امام احمد ۳۶۰/۵، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھیے صحیح ترمذی ۲۰۵۳، صحیح الترمذی والترغیب ح (۱۹۶)، اسی کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے۔

(۲) مسند امام احمد ۳۰۰/۲، ۳۳۳-۳۶۰-۵۱۷، امام منذری نے حسن اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھیے صحیح الترمذی والترغیب ح (۹۵)۔

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الجماع، باب فی الغسل من غسل میت ح (۳۱۶۱)، و ترمذی ح (۹۹۳) شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھیے ارواء الغلیل ح (۱۳۳) و رقم الحدیث ص ۱۱۳، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ کے اٹھانے سے وضوء کرنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں مروی حدیث ضعیف ہے البتہ غسل دینے والے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ و اسماء کی حدیث میں ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

۶۔ قے کے بعد وضو کرنا:

قے کرنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (فأما فأفطر فتوضأ) (۱) اللہ کے رسول ﷺ نے قے کیا، اور روزہ توڑ دیا، پھر آپ نے وضوء کیا۔

۸۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا:

آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرنا سنت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: (توضأوا مما مست النار) (۲) آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرو۔

لیکن اس کے برعکس عبد اللہ بن عباس، اور عمرو بن امیہ، اور ابو رافع رضی اللہ عنہم کی حدیث میں آپ ﷺ کے بارے میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پکا ہوا گوشت کھایا، اور نماز پڑھی دوبارہ وضوء نہیں کیا۔ (۳) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آپ کا وضوء کا حکم دینا استحبابی ہے واجب نہیں۔

۸۔ جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے:

جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے سنت ہے کھانے سے پہلے وضوء کر لے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ جب حالت جنابت میں کھانے یا

(۱) سنن ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی الوضوء والقیء، واصر ۶، ۴۳۳، والبوداد وح (۲۳۸۱)، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارواء الغلیل ح (۱۱۱) وتمام الحدیث ص ۱۱۱، نیز دیکھئے المغنی ص ۱۹۰، شرح الصمدۃ لابن حمیہ ص ۱۱۰۸، شیخ ابن ہازرحمد اللہ کے نزدیک تی، کرنے کے بعد وضوء کرنا مستحب ہے۔ دیکھئے شرح بلوغ المرام۔

(۲) مسلم کتاب النہض باب الوضوء مما مست النار ح (۳۵۳)۔

(۳) بخاری کتاب الوضوء باب من لا وضوءاً من لحم الطاءة والسویق ح (۲۰۸)، و مسلم ح (۳۵۳) میں نے شیخ ابن ہازرحمد اللہ سے پوچھا کیا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرنا مستحب ہے تو آپ نے کہا ہاں۔

سونے کا ارادہ فرماتے، تو پہلے نماز کی طرح وضوء کر لیتے تھے (۱)۔

۹۔ بیوی سے جب دوبارہ مباشرت کا ارادہ ہو:

اگر کوئی اپنی بیوی سے دوبارہ مباشرت کا ارادہ کرے، تو مباشرت سے پہلے وضوء کرنا سنت ہے۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا أتتسى احدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے دوبارہ ہمبستر ہونے کا ارادہ کرے، تو اسے وضوء کرنا لینا چاہئے (۲)۔

رہا غسل تو بسا اوقات آپ ﷺ ایک ہی غسل میں ساری بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے (۳)۔

۱۰۔ اگر جنبی بغیر غسل کے سونا چاہے:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ کیا اللہ کے رسول ﷺ حالت جنابت میں سوتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا (نعم ویتوضأ) (۴) ہاں اور وضوء کر لیا کرتے تھے۔

(۱) مسلم، کتاب الحيض، باب جواز نوم الحجب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... ج (۳۰۵)۔

(۲) مسلم، کتاب الحيض، باب جواز نوم الحجب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... ج (۳۰۸)۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ظاہری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم بستری کے لئے وضوء کرنا واجب ہے۔

(۳) مسلم، کتاب الحيض، باب جواز نوم الحجب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ... ج (۳۰۹)۔

(۴) دیکھئے بخاری، کتاب الغسل، باب کیونکہ الحجب فی البیت اذا توضأ قبل ان يتحتمل ج (۲۸۶) وسلم ج (۳۰۵)۔

اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ، عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے تو آپ ﷺ نے جواب دیا (لیتوضأ ثم لينمر حتى يغتسل اذا شاء) (۱) اسے چاہئے پہلے وضوء کر لے پھر سوئے پھر جب چاہے غسل کرے۔

علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ سے سونے سے پہلے غسل کرنا بھی ثابت ہے۔

بایں طور جنابت کے بعد سونے سے پہلے تین حالت ہوئی:

پہلی حالت: بلا وضوء اور بلا غسل سوئے یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے۔

دوسری حالت: استنجاء اور وضوء کر کے سوئے ایسا کرنا جائز ہے۔

تیسری حالت: غسل اور وضوء کر کے سوئے یہی طریقہ سب سے بہترین اور مکمل ہے۔ (۳)

(۱) بخاری، کتاب الغسل، باب نوم الجنب ح (۲۸۷) مسلم ح (۳۰۶)۔

(۲) شرح عمدۃ الکام للشیخ ابن باز رحمہ اللہ ص (۳۰) مخطوط۔

چھٹی فصل موزوں، پگڑی، اور پٹی پر مسح کرنا

۱۔ موزوں پر مسح کرنے کا حکم: قرآن و حدیث اور اجماع اہل سنت سے موزوں، پر مسح کرنے کی مشروعیت ثابت ہے۔

قرآن سے دلیل: ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَدْجُلْكُمْ إِلَى الْكَعْبِينَ﴾ (۱) (أَدْجُلْكُمْ) میں لام پرزیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جب زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ رؤس پر عطف ہوگا جس کا معنی ہوگا سر کی طرح پیر کا (بشرط کہ اس پر موزہ ہو) بھی مسح کرو، اور جب کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو ایسی صورت میں اعضائے مغسولہ پر عطف ہوگا اور معنی ہوگا کہ پیر (اگر موزہ سے خالی ہو) تو اسے دیگر اعضائے مغسولہ کی طرح دھلو۔

حدیث سے دلیل: موزوں، پر مسح کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول ﷺ سے بہت ساری متواتر حدیثیں مروی ہیں (۲)، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزوں، پر مسح کرنے کے سلسلے میں، میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا ہوں، اس سلسلے میں صحابہ کرام سے چالیس مرفوع اور موقوف حدیثیں مروی ہیں (۳)۔

(۱) سورہ مائدہ آیت ۶

(۲) الشرح لمجمع علی زاد المستقبح ۱۸۳۱، فتح الباری ۳۰۶۱

(۳) دیکھئے المغنی لابن قدامہ ۳۶۰۱، ان میں سے اکثر احادیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے ۵۱۱-۱۸۲

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مجھ سے ستر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ موزوں پر مسح کرتے تھے۔ (۱)

بہر حال مسح کرنے اور نہ کرنے کے سلسلہ میں حسب قدرت ہر شخص کے لئے وہی بہتر ہے جو اس کے لئے آسان ہو، اگر کوئی موزہ پہنے ہوئے ہے، اور مسح کے تمام شروط پائے جاتے ہیں، تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اُسوہ رسول ﷺ اور صحابہ کرام کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ان پر مسح کرے، اور جو موزہ نہ پہنے ہو وہ پیروں کو دھلے، صرف مسح کے ارادہ سے موزوں کو نہ پہنے (۲)

موزوں پر مسح کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ان اللہ یحب ان تؤتی رخصه کما یکرہ ان تؤتی معصيته) (۳) اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے۔

اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول

(۱) دیکھئے فتح الباری ۳۰۶/۱ و ۳۰۶/۲، المغنی ۱۵۸/۱۔ اور لا وسطاً لابن المنذر ۳۳۳/۱ و ۳۳۳/۲۔

(۲) الاختیارات القطعیہ لابن تیمیہ ص ۱۳ نیز دیکھئے زاد المعاد ۱۹۹ اور مغنی ۳۶۰/۱۔

(۳) مسند امام احمد ۱۰۸/۲، وسنن الکبریٰ للبیہقی ۱۳۰/۳۔ صحیح ابن خزیمہ ج (۲۰۲۷-۹۵۰) شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارداء

ﷺ نے فرمایا: (ان اللہ يحب أن تقبل دخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (۱) اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جس طرح پسند فرماتا ہے کہ اس کی فرائض پر عمل کیا جائے۔

موزہ وغیرہ پر مسح کرنے کی شرطیں

پہلی شرط۔ موزہ با وضو ہو کر پہنا ہو

دلیل: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا (آپ نے وضوء کیا) تو میں آپ کے موزوں کو نکالنے کے لئے جھکا تو آپ نے فرمایا: (دعهما فانی أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) (۲) رہنے دو میں نے انہیں با وضو ہو کر پہنا ہے، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔

دوسری شرط: مسح حدث اصغر کے بعد ہو

دلیل: صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلبيا لهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) اللہ کے رسول ﷺ ہمیں حکم

(۱) الطبرانی وابن حبان ج (۳۵۶۸)، بوشن الکبریٰ للبتیعی ۱۴۰۳ھ - شیخ الہانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارداء الغلیل ۱۱۲۳-۱۱۳۱ ج (۵۶۲۳) اور صحیح مسلم ج (۱۱۱۵) میں جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا (علیکم بروضۃ اللہ الذی رخص لکم) تم اللہ کی رخصتوں کو اختیار کرو

(۲) بخاری، کتاب الوضوء، باب اذا دخل رجلہ وجھا طہرا، ج (۲۰۶) و مسلم ج (۲۷۳)

دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں، تو تین دن تین رات اپنے موزوں کو نہ نکالیں الا کہ ہمیں جنابت لاحق ہو جائے، البتہ پاخانہ پیشاب اور نیند سے (نکالنے کی ضرورت نہیں ہے) (۱)

بنا بریں جنابت یا دیگر موجبات غسل کے پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں نکال کر غسل کرنا ضروری ہے۔ (۲)

تیسری شرط: مسح، شریعت میں مقررہ مدت میں ہو:

مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات ہے جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (جعل رسول اللہ ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) اللہ کے رسول ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات، اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات موزوں پر مسح کرنے کے لئے متعین فرمایا ہے۔

مدت مسح کے شروع ہونے کے سلسلہ میں صحیح قول یہی ہے، کہ موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کرے اور مسح کرے تو اس مسح کے وقت سے مقیم ۲۴ گھنٹہ اور مسافر ۷۲ گھنٹہ مسح کر سکتا ہے۔ (۳)

(۱) مسند الامام احمد ۲۳۹/۳، نسائی ح (۱۲۷) والیلم ابی فی الکبیر ح (۷۳۵)، و ابی خزیمہ ح (۱۹۶) اسے شیخ البانی نے من کہا ہے و یخصاروا، البخلیل ۱۲۰۰ ح (۱۰۳)۔

(۲) دیکھئے فتاویٰ المسح علی الخفین للشیخ ابن عثیمین ص (۱۳)، شرح العمدة للشیخ ابن باز ص (۲۲) و تقام المسح للشیخ البانی ص (۸۹-۹۲)۔

(۳) مفتی ابی بن قدامہ ۳۶۹، شرح العمدة فی الفقہ لابن تیمیہ ص ۲۵۶، فتاویٰ المسح علی الخفین للشیخ ابن عثیمین ص (۸)۔

چوتھی شرط: موزہ پگڑی وغیرہ جس پر مسح کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے (۱) بنا بریں اگر موزہ پگڑی وغیرہ نجاست آلود ہوں، تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں، خواہ موزہ بعینہ نجس ہو مثال کے طور پر گدھے کے چمڑے سے بنا ہو، یا بعینہ نجس نہ ہو مثال کے طور پر موزہ تو اونٹ کے چمڑا بنا ہو، لیکن اس پر گندگی لگی ہو دونوں صورتوں میں موزہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر موزہ بعینہ نجس نہیں ہے بلکہ اس پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو نجاست کو صاف کرنے کے بعد اس پر مسح کر کے نماز پڑھنی جائز ہے۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دریں اثناء آپ ﷺ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے دوران نماز اپنی جوتیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لیا، صحابہ کرام نے جب آپ کو جوتی نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں نکال دیں، نماز سے جب آپ ﷺ فارغ ہوئے، تو آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ نے اپنی جوتیاں اتاریں تو ہم نے بھی اتار دیا، آپ ﷺ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے جوتیوں میں نجاست لگی ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، تو پہلے اپنی جوتیوں کو دیکھ

لے، اگر ان میں نجاست لگی ہے تو اسے (زمین) پر گرگڑ دے پھر ان میں نماز پڑھے (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجاست آلود موزہ میں نہ ہی نماز پڑھنی جائز ہے، اور نہ ہی اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ نجاست آلود موزہ پر مسح کرنے سے ہاتھ بھی نجاست آلود ہو جائینگے۔ (۲)

پانچویں شرط: جتنے پیر کا دھونا فرض ہے، اس کو موزہ ڈھانپنے ہو، اور اتنا موٹا ہو جس سے چہرہ نظر نہ آئے، البتہ اگر معمولی پھٹا ہو تو یہ معاف ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے، جن لوگوں نے موزوں پر مسح کرنے کے تعلق سے یہ شرط لگائی ہے انہیں کے قول کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ (۳)

چھٹی شرط: موزہ مباح ہو

یعنی موزہ مباح ہو حرام نہ ہو، اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک ذاتی حرام، دوسرا کسی حرام چنانچہ موزہ خواہ کسی حرام ہو جیسے چوری کا، یا غصب شدہ موزہ ہو، یا ذاتی حرام ہو جیسے مردوں کے لئے ریشم کا بنا ہوا موزہ ہو، دونوں طرح کے موزہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسح شرعی رخصت ہے، اور شرعی رخصت کے ذریعہ کسی معصیت کو مباح نہیں کیا جاسکتا ہے، دوسری بات حرام موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھنے سے حرام کی

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی العطل ح (۶۵۰) و مسند امام احمد ۲/۲۰۳، تو سین کی عبارت مسند امام احمد کی ہے، شیخ

البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ابوداؤد میں صحیح کہا ہے نیز دیکھئے اردو ام الغلیل ح (۲۸۳)۔

(۲) دیکھئے، الشرح المجمع ۱/۱۸۸، و فتاویٰ المسیح علی الخفین للشیخ ابن شمیم ص (۷)۔

(۳) دیکھئے الفتاویٰ الاسلامیہ و شرح العمدة للشیخ ابن باز ص (۲۱) و فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۳۶، ۲۳۳، ۲۳۸/۵

تائید ہوتی ہے جب کہ حرام کا انکار کرنا ضروری ہے۔ (۱)

ساتویں شرط: مسح کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نہ نکالے!

بنابریں اگر مسح کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نکال دیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسے از سرے نو پیر کے دھلنے ساتھ ساتھ مکمل وضوء کرنا پڑے گا (۲) اسی قول کو امام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ یہی جمہور کا بھی قول ہے اور یہی قول درست بھی ہے۔ (۳)

مذکورہ شرائط کے علاوہ بعض علماء نے کچھ دیگر شرائط بھی ذکر کئے ہیں جن کی یا تو کوئی دلیل نہیں ہے، یا مذکورہ شرائط ان کو شامل ہیں۔ (۴)

مسح کو باطل کرنے والے امور

۱۔ جنابت یا دیگر موجبات غسل کے لاحق ہونے کے بعد مسح باطل ہو جاتا ہے، اور پورے بدن کا غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے (۵)

۲۔ موزہ نکالنے کے بعد وضو راجح قول کے مطابق باطل ہو جاتا ہے جیسا کہ سابقہ سطور میں بیان کیا گیا ہے۔

(۱) دیکھئے، الشرح المصحح ۱۸۹/۱، مغنی ابن قدامہ ۳۷۳/۱، وشرح الزکریٰ ۳۹۶/۱، اور اسی کا فتویٰ ہمارے شیخ ابن باز دیتے تھے۔

(۲) دیکھئے، مغنی ابن قدامہ ۳۷۳/۱، وشرح الممدۃ فی الفقہ ۱۱، تجمیہ ۲۵۷، وشرح المصحح ۲۱۵/۱

(۳) دیکھئے، فتاویٰ اللجنة الدائمہ ۲۵۱/۵، ۲۵۲، وشرح بلوغ الرام وشرح الممدۃ فی الفقہ ۱۱، ابن باز مخطوط۔

(۴) دیکھئے، مدار السبیل ۳۰، ولسبیل فی معرفۃ الدلیل ۱۳۲/۱، جیسے ایسا موزہ جس میں عرفا چلنا ممکن ہو، وہ بذات خود پیر پر کے ہوں، اتنا کشادہ نہ

ہوں جس سے دھونے کی جگہ نظر آئے

(۵) جیسا کہ صفوان بن عسال کی حدیث سے ثابت ہے جس کی تخریج گزر چکی ہے

۳ مقررہ مدت کے ختم ہونے کے بعد مسح باطل ہو جاتا ہے، (۱) شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی کو راسخ قرار دیا ہے کہ جب مدت مسح ختم ہو جائے تو دوبارہ وضوء کرتے وقت موزہ نکال کر پیر کا دھونا ضروری ہے اور پگڑی اتار کر سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ (۲)

چرمی اور غیر چرمی موزہ پگڑی پر مسح کرنے کا طریقہ
 ۱ موزہ اور جورب کے بالائی حصہ پر مسح کرنا چاہئے!

دلیل: علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ (لو كان الدين بالرائي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) (۳) اگر دین قیاس اور رائے پر ہوتا تو موزہ کا زیریں حصہ موزہ کے بالائی حصہ سے زیادہ موزوں ہوتا، میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو موزہ کے پشت پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (کان يمسح على الخفين) موزہ کے اوپر مسح کرتے تھے۔ کچھ راوی کا کہنا ہے (على ظهر الخفين) (۴) موزہ کے پشت پر مسح کرتے تھے۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلال نے اپنی سند سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ

(۱) دیکھئے شرح عمدہ فی الفقہ لابن تیمیہ ص ۲۵۷، منی لابن قدامہ ۳۶۶۔

(۲) شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسے اپنی بلوغ المرام کی شرح میں ذکر کیا ہے اور اسی کا زیادہ تر فتویٰ دیتے تھے۔

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب کیف المسح (۱۶۲) اور شیخ ابن باز اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے اردو الغلیل ص ۱۰۳۔

(۴) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب کیف المسح (۱۶۱) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح ابوداؤد، ص ۳۳۱۔

عنه سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے وضو کرنے کا طریقہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: کہ اللہ کے رسول ﷺ نے وضو کیا، اور اپنے موزوں پر مسح کیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے موزہ پر رکھا اور بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں موزہ پر رکھا پھر آپ ﷺ نے دونوں موزوں کے بالائی حصہ کا ایک مرتبہ مسح کیا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی میں آپ کے انگلیوں کے نشانات آپ کے موزوں پر دیکھ رہا ہوں (۱)

ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: موزوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں موزوں کو دونوں ہاتھوں سے مسح کرے داہنے کو داہنے سے اور بائیں کو بائیں سے (۲)۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ایک ہاتھ سے مسح کیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے جیسا بھی کیا جائے سب صحیح ہے۔

پانچابہ اور چرمی موزہ دونوں پر مسح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (توضاً رسول اللہ ﷺ ومسح علی الجودین والنعلین) (۳) اللہ کے رسول ﷺ نے وضوء کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔

(۱) دیکھئے: معنی ابن قدامہ، ۳۷۷۔

(۲) معنی ابن قدامہ، ۳۷۷ شرح المعتمد فی الفقہ لابن حمدیہ ص ۲۷۷ شرح الزکری علی مختصر الخزرجی ص ۳۰۳۔

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب مسح علی الجودین ص (۱۵۹) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے: دیکھئے صحیح ابوداؤد، ص ۳۳۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جب جوتا اور موزہ دونوں پر مسح کرے تو مسح کے بعد جوتے کو نہیں نکالنا چاہئے (۱)

رہا پگڑی اور عورت کے دوپٹہ پر مسح کرنا تو اس کے دو طریقے ہیں:

۱۔ مضبوطی سے باندھے ہوئے پگڑی اور دوپٹے پر مسح کرنا (اور اسی پر اکتفا کرنا)۔

۲۔ پیشانی کے بال پر مسح کرنا اور پگڑی پر مسح کی تکمیل کرنا۔ (۲)

اور صحیح قول یہی ہے کہ پگڑی اور دوپٹہ پر مسح کرنے کے لئے وہی شرائط ہیں جو موزہ پر

مسح کرنے کے شرائط ہیں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے (۳)

پٹی پر مسح کرنے کا حکم

کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں سب

ضعیف (۴) ہیں لیکن علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: موزوں اور پٹی پر مسح کرنے کے سلسلے

میں جو حدیثیں مروی ہیں، ان کو باہم ملانے سے پٹی پر مسح کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیونکہ

موزوں پر مسح کرنا درحقیقت آسانی کے لئے مشروع کیا گیا ہے، بایں معنی پٹی پر مسح کرنا مشروعیت

کے لئے زیادہ اولیٰ ہے، کیونکہ نقصان سے بچنے کے لئے پٹی پر مسح کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی

ہے اور یہی وجہ ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے (۵)

(۱) مفتی ابن قدامہ (۳۷۵) شرح المفردات لابن تیمیہ ص ۲۵۱، اختیارات ابن تیمیہ ص ۱۳

(۲) بخاری ج ۲۰۳-۲۰۵

(۳) دیکھئے مفتی ابن قدامہ (۳۸۲)

(۴) جیسے علی بن ابی طالب، ابن عباس، اور جابر رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث، دیکھئے شرح بلوغ المرام للشیخ ابن باز رحمہ اللہ (۱۳۵-۱۳۷) مخطوط

(۵) دیکھئے شرح بلوغ المرام للشیخ ابن باز رحمہ اللہ (۱۳۵-۱۳۷) مخطوط

پٹی اور موزہ پر مسح کرنے میں فرق

۱۔ پٹی پر اسی وقت مسح کر سکتے ہیں جب اس کے نکالنے پر تکلیف کا خدشہ ہو جبکہ موزہ پر بلا کسی تکلیف کے بھی مسح کر سکتے ہیں۔

۲۔ وضو میں دھونے والی جگہ پر بندھی پوری پٹی پر مسح کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے جبکہ موزہ کے کچھ حصہ پر مسح کرنا کافی ہے جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ کیونکہ پورے موزہ پر مسح کرنا مشقت سے خالی نہیں ہے۔ (۱)

۳۔ پٹی پر مسح کرنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ جب تک اس پر مسح کرنے کی ضرورت ہوگی مسح کیا جائے گا۔ جب کہ موزہ کے لئے وقت مقرر ہے۔

۴۔ پٹی پر حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں مسح کرنا جائز ہے جبکہ موزہ پر صرف حدث اصغر میں مسح کر سکتے ہیں۔

۵۔ راجح قول کی بنیاد پر پٹی باندھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے جبکہ موزہ پہننے سے پہلے با وضو ہونا ضروری ہے۔ (۲)

۶۔ پٹی کسی عضو کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ موزہ پیر کے ساتھ خاص ہے۔ (۳)

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی تمام فقہاء کا مسلک ہے دیکھئے فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۸۲/۷۸۲۱۔

(۲) مفتی لابن قدامتہ ۳۵۶/۱، فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۷۶/۱۷۶۱، نیز دیکھئے الاجوبۃ والاعطیۃ للسلطان ۳۱۱/۱ آپ نے مزید چند دیگر فرق کو ذکر کیا ہے۔

(۳) دیکھئے، الشرح المصحح للشیخ ابن شمیم ۲۰۳/۱۔

پٹی پر مسح کرنے کا طریقہ

اعضائے طہارت پر زخم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ زخم کھلا ہو اور دھونے سے نقصان کا خدشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کا دھونا واجب ہے۔

۲۔ اگر زخم کھلا ہو اور دھونا نقصان دہ ہو، لیکن مسح کرنا نقصان دہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کا مسح کرنا واجب ہے۔

۳۔ زخم کھلا ہو اور دھونا اور مسح کرنا دونوں نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں زخم پر پٹی باندھ لے اور پٹی پر مسح کرے، اور اگر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں (بقیہ جو دھونے کے لائق ہیں ان کو دھولے اور جس کو نہیں دھویا ہے) اس کے بدلے میں تیمم کرے۔

۴۔ اگر زخم پٹی یا جبس وغیرہ سے پوشیدہ ہو تو ایسی صورت میں مسح کرنا کافی ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱)

اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ جب کسی عضو پر مسح کر لیا جائے تو اس کے بدلے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر اعضائے وضوء میں سے کوئی ایسا عضو ہے

جس پر مسح نہیں کیا گیا ہے تو اس کے بدلے تیمم کرے۔ (۲)

(۱) دیکھئے، مسح علی العین للشیخ ابن عثیمین ص (۲۵)

(۲) فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء، ۲۳۸/۵، والشرح للمصحح ۲۰۲/۱

غسل

ساتویں فصل

غسل کو واجب کرنے والے امور:

۱۔ تیزی سے لذت کے ساتھ منی کا نکلنا:

۱: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الماء من الماء) (۱) پانی پانی سے ہے۔

۲: علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا دابت المذی فاغسل ذکرك، وتوضا وضوئک للصلاة، فاذا فضخت الماء فاغتسل) (۲) جب مذی کو دیکھو تو عضو تناسل کو دھولو، اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرو اور جب پانی (منی) تیزی سے نکلے تو غسل کرو!

البتہ سونے والا جب بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑے پر منی کے اثرات دیکھے، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اسے شہوت و لذت یاد ہو یا نہ ہو۔

۳: ام المؤمنین ام سلمہ و عائشہ و انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا ہے، کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے تو اس

(۱) مسلم، کتاب الخبیث، باب الماء من الماء ج (۳۴۳)۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب المذی ص (۲۰۶) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح ابوداؤد، ص ۳۰۷ و دارالماغلطیل ۱۶۲۱۔

پر غسل کرنا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا: ہاں جب وہ پانی (منی) دیکھ لے (۱)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب سونے کی حالت میں منی کا خروج ہو، تو مطلقاً غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ لذت کے ساتھ زور سے نکلا ہو یا بلا لذت نکلا ہو، کیونکہ سونے والے کو کبھی لذت وغیر لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔

بنا بریں جب مرد یا عورت خواب دیکھے، اور بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر منی کے اثرات دیکھے، تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب دیکھے لیکن بیدار ہونے کے بعد منی کے اثرات نہ دیکھے تو اس پر غسل واجب نہیں، ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے میرے علم کی حد تک اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔

سونے والا بیدار ہونے کے بعد اگر اپنے کپڑے پر تری دیکھے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

پہلی صورت: اسے یقین ہو کہ یہ تری منی کی ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے، خواہ اسے خواب یاد ہو یا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منی کے اثرات کو دیکھا، تو غسل کیا، کپڑے کو دھلا، اور اس کپڑے میں سب سے آخری بار سونے کے بعد پڑھنے والی نماز کا اعادہ کیا۔ (۳)

دوسری صورت: اسے یقین ہو کہ یہ تری منی کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں غسل

(۱) بخاری کتاب غسل، باب ۱۱، ص ۲۸۲ (۲) سلم (۳۱۰-۳۱۳)

(۲) مفتی ابن قدامہ، شرح الصحیح للشیخ ابن عثیمین، ۲۷۹

(۳) مفتی ابن قدامہ، ۲۶۶، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵

واجب نہیں ہے، البتہ بھگی ہوئی جگہ کو دھلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پشاب کے حکم میں ہے (۱)

تیسری صورت: اسے منی کے ہونے نہ ہونے میں تردد ہو (۲)، ایسی صورت میں اس کی دو حالت ہو سکتی ہے۔

پہلی حالت: سونے سے پہلے اسے یاد آ رہا ہو کہ اس نے اپنی بیوی سے دل لگی کی ہے، یا شہوت اسے دیکھا ہے، یا ہم بستری کے شہوانی خیالات اس کے دل میں آئے ہیں، ان تمام صورتوں میں اس تری کو وہ مذی پر محمول کرے، کیونکہ مذی عموماً ہم بستری کے شہوانی خیالات کے بعد بغیر احساس کے نکلتی ہے، اور ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، اسے چاہئے کہ اپنے عضو تناسل اور فوطوں کو اور جہاں کپڑے پر تری ہے اس کو دھل لے اور نماز کی طرح وضو کرے۔

دوسری حالت: سونے سے پہلے اس نے نہ تو اپنی بیوی سے دل لگی کی ہو، اور نہ ہی ہم بستری کے شہوانی خیالات اس کے دل میں آئے ہوں ایسی صورت میں علماء کرام کے دو قول ہیں:

پہلا قول: اس پر غسل واجب ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایک

(۱) الشرح المصحح للشیخ ابن عثیمین ص ۲۸۰۔

(۲) معنی لابن قدامہ ص ۲۷۰۔

شخص بیداری کے بعد کپڑے پر تری پاتا ہے، لیکن اسے خواب یاد نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ وہ غسل کرے، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کو خواب یاد ہو لیکن تری نہ دیکھے، آپ نے فرمایا: اس پر غسل نہیں ہے۔ (۱)

لہذا اس دوسری حالت میں اس حدیث کے بموجب ازالہ شک کے لئے احتیاطاً غسل کر لے بہتر ہے (۲)۔

دوسرا قول: اس پر غسل واجب نہیں ہے: کیونکہ طہارت اصل ہے، جو شک سے زائل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لئے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ (۳)۔

۲۔ مردوزن کے ختنوں کا باہم ملنا:

۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، اور اس کے ساتھ پوری کوشش (یعنی جماع) کر لے، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ (۴)۔

۲: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنہ ختنہ سے مل جائے، تو اس

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الرجل یجد المذۃ فی منارۃ (۲۳۶) وترمذی ح (۱۱۳) وابن ماجہ ح (۶۱۲) ومسند امام احمد ۶/۲۵۶ اور شیخ

البانی نے اسے حسن کہا ہے دیکھئے صحیح ابوداؤد، ۳/۳۶۱ ح (۲۱۶)۔

(۲) المغنی ۱۱/۱۱۱ قد لہذا ۲۷۰۱ والشرح لمصیح ابن شمیم ۱/۲۸

(۳) مغنی ۱۱/۱۱۱ قد لہذا ۲۷۰۱ والشرح لمصیح ابن شمیم ۱/۲۸ وشرح الترمذی علی صحیح البخاری ۲/۷۷

(۴) بخاری، کتاب الغسل، باب اذا لقی الختان ح (۲۹۱) ومسلم ح (۳۲۸)

پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ (۱)

مذکورہ دونوں اسباب غسل پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ﴿وان كنتم جنبا فاطمروا﴾ (۱) بھی دلالت کرتا ہے (مذکورہ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مرد کے عضو تناسل کا صرف ختنہ کا حصہ عورت کی ختنہ کی جگہ یعنی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ منی کا خروج ہو یا نہ ہو)۔

۳۔ کافر کا مسلمان ہونا: خواہ از سر نو مسلمان ہو رہا ہو، یا مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو رہا ہے۔

۱: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے پاس اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے گیا (فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) (۳) تو آپ نے ہمیں پانی اور پیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

اسلام کے بعد غسل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ نے اپنے باطن کو اسلام کے ذریعہ شرک کی آلائشوں سے پاک کیا، تو مناسب یہی ہے کہ ظاہری حصہ کو بھی غسل کے ذریعہ صاف کر لے۔

کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ قبول اسلام کے بعد غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب

(۱) مسلم کتاب الخبث، باب نزع الماء من الماء، ووجوب الغسل بقتلہ والاغتسال ح (۳۳۸)۔

(۲) سورہ بقرہ آیت ۶

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب طہارة، باب فی الرجل یسلم فیمر بالغسل ح (۳۵۵) والنسائی ح (۱۸۸) وترمذی ح (۶۰۵) سند امام

احمد ۶۰۵، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارواء الغلیل ۱۲۳

ہے کیونکہ اس سلسلے میں آپ کا کوئی عمومی حکم نہیں کہ جو بھی اسلام قبول کرے وہ غسل کرے، اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام مسلمان ہوئے لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں منقول ہے کہ آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اسلام کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا تو روزہ مرہ کی ضرورت کی پیش نظر یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہوتی اور تو اتر کے ساتھ منقول ہوتی۔

و جب کے قائلین مذکورہ تفصیل کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وجوب کا حکم زیادہ قوی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کا حکم دینا آپ ﷺ سے ثابت ہے اور امت کے ایک فرد کو کسی چیز کا حکم دینا ساری امت کے لئے وہ حکم ہے۔

علماء کرام کی ایک تیسری جماعت کا کہنا ہے کہ: حالت کفر میں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے ورنہ نہیں (۱)

علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے واجب نہیں کیونکہ آپ ﷺ نے اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے (اس لئے چند ایک کے لئے آپ کا حکم دینا سنت پر محمول کیا جائیگا)

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا واجب

ہے، خواہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنبی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ (۳)

(۱) فضیلت ابن تیمیہ، ۲، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴

۴۔ شہید کے علاوہ مسلمان کی موت: یعنی کسی مسلمان کے مرنے بعد زندوں پر اس کا غسل دینا واجب ہے۔

۱: ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس حدیث میں جس میں ایک محرم صحابی کے اونٹنی سے گر کر کے مرنے کا واقعہ مذکور ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: (اغسلوا بماء وسدر وکفنوا فی ثوبیہ) (۱) اسے پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور اس کے دونوں (احرام کے) کپڑوں میں کفناؤ۔

۲۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم آپ ﷺ کی دختر کو غسل دے رہی تھیں، اتنے میں آپ تشریف لائے اور فرمایا: (اغسلنها ثلاثا أو أكثر من ذلك ان رأینا ذلك) (۲) انہیں تین بار یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو غسل دو۔

۵۔ ماہواری: ماہواری کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا لازم ہے، بند ہونے سے پہلے غسل کرنا پاکی کے لئے کافی نہیں ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (۳) وہ لوگ آپ سے

(۱) بخاری، کتاب الجنائز، باب الجنح والعلیت ص (۱۲۶۶) و مسلم ص (۱۲۰۶)

(۲) بخاری، کتاب الجنائز، باب غسل میت وضمومہا، ولسد ر ص (۱۲۵۳) و مسلم ص (۹۳۹)

(۳) سورۃ البقرۃ آیت نمبر (۲۲۲)

چنانچہ یہی دم حیض ایام حمل میں بچے کی غذا کام دیتا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس کا مصرف ختم ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ دم نفاس کی شکل میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دم نفاس عموماً ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد یا ولادت سے ایک دن یا دو دن یا تین دن پہلے روانی کے ساتھ نکلتا ہے۔

علماء کرام کا حیض اور نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل کے واجب ہونے پر اتفاق ہے۔ (۱)

جنبی کو پانچ چیزوں سے باز رہنا چاہئے

۱۔ نماز پڑھنی

دلیل: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ (۲) اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو اور بات ہے۔

۲: ابو ہریرہ (۳)، علی (۴) اور ابن عمر (۵) رضی اللہ عنہم کی سابقہ حدیثیں بھی نماز

(۱) دیکھئے الشرح المصحح للشیخ ابن عثیمین ۲۸۸/۱

(۲) سورۃ النساء آیت نمبر (۴۳)۔

(۳) بخاری ج (۱۳۵) و مسلم ج (۲۲۵) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۴) سنن ابوداؤد ج (۶۱) و ترمذی ج (۳) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۵) مسلم ج (۲۲۳) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

کے لئے جنابت سے طہارت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔

۲۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا:

دلیل: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الطواف بالبيت صلاة) (۱) بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے۔

۳۔ قرآن کا چھوٹا:

دلیل: عمرو بن حزم، حکیم بن حزام، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یمس القرآن الا طاهر) (۲) قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔

۴۔ قرآن پڑھنا:

دلیل: علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (کان یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا) (۳) ہمیں سوائے حالت جنابت کے ہر حالت میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ

(۱) صحیح مسنن الترمذی کتاب الناسک باب اداء الکلام فی الطواف ح (۲۹۲۲) و ترمذی (۹۶۰) و ابن خزیمہ ح (۲۲۲)۔

(۲) مالک، کتاب القرآن، باب لا یرابوا وضو لمن مس القرآن ح (۱) و الدارقطنی ح (۳۳۱-۳۳۳) و حاکم ح (۳۹۷) اور ابان بن رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے ارواء الغلیل ح (۱۵۸) و الخلیص الحمیر لابن حجر ح (۱۳۱) اور شرح صحیح ح (۲۶۱)۔

(۳) سنن ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا، ح (۱۳۶) و ابوداؤد ح (۲۲۹) و النسائی ح (۲۶۵) و ابن ماجہ ح (۵۹۳) و مسند امام احمد ح (۱۸۴) حافظ ابن حجر نے الخلیص الحمیر ح (۱۳۱) میں کہا کہ اس حدیث کو ابن سکین اور عبد الحق نے حسن کہا ہے شیخ شعیب أرنؤوط اور شیخ ابن باز نے بھی اسے حسن کہا ہے، نیز دیکھئے جامع لأصول ح (۱۲۳) و شرح عمدۃ المفق لابن

(اكان يخرج من الخلاء فيقرئنا وياكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه
أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة)
بیت الخلاء سے نکلتے تھے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، سوائے
جنابت کے کوئی چیز آپ کو قرآن (پڑھنے) سے نہیں روکتی تھی۔

۲: علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے وضو کیا پھر
قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: (هذا لمن ليس بجنب أما الجنب
فلا ولا آية) (۱) اس طرح کرنا ایسے شخص کے لئے (جائز) ہے جو جنبی نہیں ہے اور اگر جنبی ہے
تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے بلکہ ایک آیت بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔

۵۔ مسجد میں ٹھہرنا:

ولیل: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سَكَدَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوا﴾ (۲) اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب
تک کہ اپنی بات سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر
جانے والے ہو اور بات ہے۔

۳: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ان گھروں کا رخ مسجد کی
طرف سے پھیر دو (فانی لا اهل المسجد لحائض ولا جنب) (۳)

(۱) مسند امام احمد (۶۶۲) شیخ احمد شکر نے کہا اس کی سند صحیح ہے اور شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کی سند جید ہے۔ دیکھئے قرآنی اسلامیہ ۲۳۹۱

(۲) سورۃ النساء آیت ۴۳

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الجنب یغسل المسجد (۲۳۲) دیکھئے ابن حجر نے تلخیص الخیر ۱۳۱۱۱۔ بقیہ اعلیٰ صفحہ پر

کیونکہ میں مسجد کو جنبی اور حائضہ کے لئے حلال نہیں جانتا۔

البتہ اگر جنبی مسجد کے اندر سے گزرنا چاہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾^(۱)
 اسی طرح حائضہ اور نفساء بھی مسجد کے اندر سے گزر سکتی ہیں بشرطیکہ مسجد کو گندہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو:

دلیل: عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا مجھے مسجد سے مصلیٰ پکڑاؤ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:
 تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (۱)

۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دریں اثناء اللہ کے رسول ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا عائشہ! مجھے کپڑا لادو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا لے آؤ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (۲)

۳: میمونہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ہم میں سے کسی (ازواج مطہرات) کے پاس آتے وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں، آپ ان کی گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، پھر وہ مسجد میں اسی حالت حیض میں

اگلے صفحہ کا بقیہ: میں کہ امام احمد نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح اور ابن قتان نے حسن کہا ہے نیز شیخ شعبان نے جامع الاصول (۲۰۵/۱۱) میں بھی اسے حسن کہا ہے، اور شیخ ابن باز نے بلوغ المرام کی شرح، ج ۲ (۱۳۲) میں کہا کہ ہمیں اس کی سند میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے۔

(۱) مسلم، کتاب الجھش، باب جواز غسل الخائف رأساً زود جہاداً جلید و طہارۃ سورہ اح (۲۹۸)۔

(۲) مسلم، کتاب الجھش، باب جواز غسل الخائف رأساً زود جہاداً جلید و طہارۃ سورہ اح (۲۹۹)۔

اپنے مصلیٰ کو بھی رکھ آتیں تھیں (۱)۔

علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: صحابہ کرام حالت جنابت میں مسجد کے اندر سے گزرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں اس کی اجازت ہے رہا آپ ﷺ کا یہ فرمان (فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب) (۲) [بلاشبہ میں حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا] تو یہ مسجد میں ٹھہرنے اور بیٹھنے کے متعلق ہے نہ کہ صرف گزرنے کے بارے میں۔

رہی زید بن اسلم کی حدیث (أن بعض أصحاب النبي ﷺ كانوا اذا توفؤوا جلسوا في المسجد) (۳) [کہ کچھ صحابہ کرام جب وضو کر لیتے تھے تو مسجد میں بیٹھتے تھے] یہ امام احمد امام اسحاق وغیرہ کی دلیل ہے جو حائضہ اور جنبی کو مسجد میں وضو کرنے کے بعد ٹھہرنا جائز جانتے ہیں۔

اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ اور جنبی اگر وضو بھی کر لیں تب بھی ان کے لئے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا﴾ [سورة النساء: ۴۳] اور اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان (انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب)

(۱) حیدری ج (۳۱۰) و مسند احمد ۳۳۱/۶، ۳۳۲، ۳۳۳، والنسائی، کتاب الطہارة، باب وسط الحائض الخمرۃ فی المسجد ج (۲۷۲)۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارة، باب فی الجب یدخل المسجد (۲۳۲) اس حدیث کی تخریج مزہبی کی ہے۔

(۳) دیکھئے المنشیٰ للعبد ابن حمیہ ۱۳۷۱-۱۳۷۲، و شرح العمدة لابن حمیہ ۳۹۱/۱ زید بن اسلم کے بارے کلام ہے دیکھئے حواشی المنشیٰ ۱۳۲۱۔

[بلاشبہ میں حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا] کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی قول قوی اور واضح ہے، رہا چند صحابہ کرام کا وضوء کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا تو ہو سکتا ہے کہ، انہیں جنبی کو مسجد میں بیٹھنے کی ممانعت کی دلیل معلوم نہ رہی ہو، بنا بریں اس آیت کریمہ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ [سورۃ النساء: ۴۳] پر عمل کرتے ہوئے جنبی کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔

رہے زید بن اسلم جو حدیث کے راوی ہیں، تو اگرچہ امام مسلم نے ان سے روایت کیا ہے لیکن اگر یہ کوئی حدیث تنہا روایت کریں تو اس کے قبول کرنے میں دل میں جھجک رہتا ہے۔

غسل کے شرائط

غسل کے شرائط آٹھ ہیں:

۱۔ نیت ۲۔ اسلام ۳۔ عقل ۴۔ تمیز ۵۔ ۶۔ پانی کا پاک اور مباح ہونا ۷۔ چڑے پر پانی پہنچنے سے مانع چیز کا ازالہ ۸۔ موجب غسل کا ختم ہونا۔ (۳)

(۱) شیخ نے یہ بات محمد ابن عیوبہ کی کتاب مستحی کی حدیث نمبر (۳۹۶) کی شرح میں کہی ہے جس کی ہماری لاہوری میں آڈیو کیسٹ موجود ہے نیز دیکھئے الشرح مع تلخیص ابن عیوبہ ۱۹۳۱ء

(۲) ابن قاسم نے اروض المرغیہ میں نقل کیا ہے کہ ابتدائے طہارت سے اجتنائے طہارت تک نیت کا استمرار واجب ہے (۱۹۸۱ء) لیکن یہ واجب ہے یا شرط ہے اس پر غور کرنا چاہئے؟

(۳) دیکھئے حاشیہ اروض المرغیہ لابن قاسم ۱۸۹۱، ۱۹۳۱، ۱۹۴۱ء، دوسرا سبیل۔

غسل کرنے کا طریقہ

ذیل میں فرائض و واجبات اور مستحبات پر مشتمل مکمل غسل کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ دل سے کامل غسل کی نیت کرے!

دلیل: عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرء ما نوى) (۱) اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لئے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

۲۔ بسم اللہ کہے!

دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (۲) اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضوء صحیح نہ ہو، اور اس شخص کا وضوء نہیں ہوتا جو اس پر بسم اللہ نہیں پڑھتا۔

۳۔ دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھلے، جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (۳)

۴۔ بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو دھلے اور تمام آلائشوں سے صاف کرے، جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (۴)

(۱) بخاری، کتاب بدء الوبی، باب کیف کان بدء الوبی الی رسول اللہ ﷺ ح (۱) و مسلم ح (۱۹۰)

(۲) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارة باب فی التسمیة علی الوضوء، ح (۱۰۱) و ترمذی ح (۲۵) و ابن ماجہ ح (۳۹۸-۳۹۹)

(۳) بخاری، کتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ح (۲۳۸) و مسلم ح (۳۱۶-۳۱۷)

(۴) بخاری، کتاب الغسل، باب غسل مرفؤ احدیہ، ح (۳۵۷) و مسلم ح (۳۱۶-۳۱۷)

۱۵ ہاتھ پاک زمین پر رگڑ کر اچھی طرح دھلے، جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (۱) یا کسی دیوار پر رگڑ کر دھل لے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۲)۔ یا صابون اور پانی سے دھل لے سب صحیح ہے۔

۶ نماز کی طرح کامل وضوء کرے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (۳)

اور اگر چاہے تو سوائے پیر کے بقیہ سارے اعضاء وضوء کو دھل لے، اور پیر کو غسل کے آخری میں دھلے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۴)۔

۷ پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعہ سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرے، یہاں تک سر کا چمڑا تر ہو جائے، پھر یکے بعد دیگرے اپنے سر پر چلو سے تین مرتبہ پانی ڈالے جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (۵)

پہلے سر کو دہنی طرف سے دھلے پھر بائیں طرف سے پھر درمیان سے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (۶)

عورت کے لئے غسل جنابت کرتے وقت چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے (بس اتنا کافی ہے کہ سر پر تین بار پانی بہا لے بائیں طور کہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے)، جیسا کہ ام سلمہ

رضی اللہ عنہا سے مروی

(۱) بخاری کتاب الغسل باب من افرغ یدیه علی ثمار فی الغسل، ج (۲۶۶) و مسلم ج (۳۱۷)

(۲) بخاری کتاب الغسل باب من توضأ من الجنابت فم غسل سائر جسده، ج (۲۷۳) و مسلم ج (۳۱۷)

(۳) بخاری کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، ج (۳۱۸) و مسلم ج (۳۱۶)

(۴) بخاری کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، ج (۳۱۸)

(۵) بخاری کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، ج (۳۱۸) و مسلم ج (۳۱۶)

(۶) بخاری کتاب الغسل باب من بدأ بأحد ابواب الوضوء عند الغسل، ج (۳۵۸) و مسلم ج (۳۱۸)

ہے، (۱) البتہ حیض سے غسل کرتے وقت چوٹیوں کا کھولنا مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (۲)

۱۸/ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالے جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (۳) پہلے داہنے طرف ڈالے پھر بائیں طرف، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (ان النبی ﷺ كان يعقبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (۴) کہ اللہ کے رسول ﷺ جوتی پہننے، کنگھی کرنے، وضوء کرنے، اور دیگر تمام امور میں داہنے طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔

بغل اور اعضاء جسم کے شکن کی جگہوں کو، رانوں کے اوپری حصہ کو (یعنی جس جگہ پانی نہ پہنچے کا خدشہ ہو انہیں) اہتمام کے ساتھ دھلے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۵)

(۱) ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے سر کی چوٹی کو سختی سے باندھتی ہوں، کیا میں اسے غسل جنابت کے وقت کھولوں؟ تو آپ نے کہا نہیں تمہارے لئے جی کافی ہے کہ تم سر پر تین بار پانی بہاؤ تو تم پاک ہو جاؤ گی اور ایک روایت میں ہے کہ کیا میں اسے غسل حیض اور جنابت کے لئے کھولوں؟ تو آپ نے کہا نہیں، مسلم، کتاب الخیض باب حکم فضاء الخیض ج (۳۳۰)۔

(۲) جیسا کہ آپ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب وہ حج کے موقع پر حاضر ہوئی تھیں تو کہا: (دعی عمسرتک وانقصی رأسک وامتنسطی) تم اپنے عمرہ کو چھوڑ دو اور اپنے سر کو (غسل کے لئے) کھولو اور کنگھی کرو۔ (۱) شیخ ابن ماجہ ابن تیمیہ کی کتاب مفتی کی ش میں کہتے ہیں کہ عورت کے لئے غسل حیض سے لے کر کھولنا مستحب ہے اور غسل جنابت کے لئے نہیں نیز دیکھئے فتح الباری ۱/۱۸۸

(۳) بخاری، کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ج (۲۲۸) و مسلم ج (۳۱۲)

(۴) بخاری، کتاب الوضوء باب التیمم فی الوضوء، والغسل ج (۱۶۸) و مسلم ج (۲۶۸)

(۵) اس حدیث میں ہے (و غسل مراععہ) پھر آپ ﷺ جوڑوں کو دھوتے تھے یعنی جہاں میل کبیل زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ باب فی الغسل من الجنایۃ، ج (۲۳۳) اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح سنن ابوداؤد ۱/۲۸۸

پانی جس جگہ بغیر ملے نہ پہونچے اس جگہ کو ملے۔ (۱)

۹ غسل کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ اپنے قدم کو دھلے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۲)۔ اور غسل کے بعد بہتر ہے کہ اپنے اعضاء کو کسی کپڑے سے خشک نہ کرے، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، (۳) اور پانی استعمال کرنے میں فضول خرچی نہ کرے اور نہ ہی افراط اور تفریط کرے، یہی غسل کامل کا طریقہ ہے (۴)۔

مسنون غسل

۱۔ نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا:

۱/ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

(۱) ثریب بن عبد قیس لفظ الامین ترمذی ۳۶۸۱ جیسا کہ اکثر رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: پھر وہ اپنے سر پر پانی ڈالے اور اچھی طرح نئے

(۲) بخاری، کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ج (۲۳۹)؛ مسلم ج (۳۱۷) شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نہانے والے کو چاہئے کہ غسل سے فراغت کے بعد پیر کو دھل لے، خواہ پہلے دھلا ہو یا نہ دھلا ہو۔

(۳) میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: غسل سے فراغت کے بعد آپ کے پاس میں توالیے کے آئی تو آپ ﷺ نے اسے نہیں لیا اور مسلم شریف میں ہے کہ اس سے آپ ﷺ نے پانی کو خشک نہیں کیا، بخاری، کتاب الغسل باب فی المضمض والاشفاق فی الجناب ج (۲۵۹)؛ مسلم ج (۳۱۷)۔

(۴) رہائش گاہ یا تو وہ اس طرح ہے کہ غسل کی نیت کرے، بسم اللہ کہے، کھلی کرے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرے، اور سارے بدن پر پانی ڈالے، (اگر کوئی اس طرح غسل کرتا ہے تو اس کا بھی غسل کافی اور صحیح ہے) اللہ کے رسول ﷺ کا غسل کامل غسل ہے جس میں یہ رہ چیزیں پائی جاتی تھیں نیت کرنا، بسم اللہ کہنا، ہاتھ کو تین بار دھلنا، شہر مگاہ کو دھلنا، ہاتھ کو ل کر دھلنا، وضوء کرنا، سر اور ڈاڑھی کے بال کے جلوں کو پانی سے تر کرنا، سر پر تین جلوں (بار) پانی ڈالنا، پھر پیر سے بدن پر پانی ڈالنا، بدن کو ملنا، وہی طرف سے شروع کرنا۔ غسل کی جگہ سے ہٹ کر اپنے قدم کو دھلنا۔ (اس طرح غسل کرنا افضل اور مسنون ہے)۔

(غسل الجمعة واجب علی کل محتلم) (۱) ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے،،

۲/ نیز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الغسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم وأن یستن وأن یمس طیباً ان وجد) (۲) جمعہ کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے، اور مسواک کرے اور حسب استطاعت خوشبو لگائے۔

۳/ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (حق اللہ علی کل مسلم أن یغتسل فی کل سبعة أيام یغسل داسہ وجسدہ) (۳) ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ سات دن میں غسل کرے، اس (غسل) میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔

۴/ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلی ما قدر له ثم أنصت حتی یفرغ الامام من خطبته ثم یصلی معہ غفر له ما تقدم ما بینہ وبين الجمعة الاخری وفضل ثلاثة أيام) (۴) جس نے غسل کیا

(۱) بخاری، کتاب الجمعة باب فضل الغسل یوم الجمعة ح (۸۷۹)، مسلم ح (۸۳۲)۔

(۲) بخاری، کتاب الجمعة باب الطیب للجمعة ح (۸۸۰)، مسلم ح (۸۳۲)۔

(۳) بخاری، کتاب الجمعة باب هل علی من لم یشهد الجمعة غسل ح (۱۹۷)، مسلم ح (۸۳۹)۔

(۴) مسلم، کتاب الجمعة باب فضل من اتبع وأصغت فی الجمعة ح (۱۷۷)۔

پھر جمعہ کے لئے آیا، پھر اس سے جتنا ہو سکا نماز پڑھا، پھر خاموش ہو کر خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور مزید تین دنوں (یعنی کل دس دنوں کے اس کے گناہوں) کو بخش دیا جائے گا۔

۵۔ ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے پھر جمعہ (کی نماز) کے لئے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے (۱) (جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے) پھر جتنا ہو سکے اتنی نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ کے لئے آئے تو خاموش رہے (اس کا خطبہ سننے کے لئے) یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، تو اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان اور مزید تین دنوں (کے گناہوں) کو بخش دیا جائے گا (۲)

۶۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص (اپنی بیوی کو صحبت کے بعد) نہلائے اور خود نہلائے پھر مسجد میں سویرے جائے، اور خطبہ کو شروع سے پائے پیدل جائے سوار ہو کر نہ جائے، امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ کو سنے، بیہودہ بات نہ کہے، تو اسے ہر قدم کے

(۱) صحیح ابن خزیمہ میں ابورداء رضی اللہ عنہ مروی ہے (لعمریہ ص ۱۱۳) اور آدمیوں کے درمیان اس لئے تفریق نہیں کی (۱۷۶۳)۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل یوم الجمعۃ، ص (۳۳۳) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح سنن ابوداؤد، ص ۷۰۔

بدلے ایک سال کے قیام و صیام کا ثواب ملے گا۔ (۱)

۷/ سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضوء کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ (۲)

۸/ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (جس نے اچھی طرح وضوء کیا پھر جمعہ کی نماز کے لئے آیا اور خاموش ہو کر غور سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور مزید تین دنوں (یعنی کل دس دنوں کے گناہوں) کو بخش دیا جائے گا۔ اور جس نے کنکری چھو اس نے لغو کیا۔ (۳)

سابقہ نصوص کو دیکھتے ہوئے علماء کرام کے غسل جمعہ کے حکم کے بارے میں تین اقوال ہیں۔

۱/ غسل جمعہ مطلقاً واجب ہے اور یہ مضبوط قول ہے۔

۲/ غسل جمعہ مطلقاً سنت موکدہ ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک یہی قول راجح ہے لیکن اختلافات سے بچنے کے لئے غسل جمعہ کی پابندی کرنی چاہئے۔

۳/ رحمت کا کام کرنے والوں کے لئے جس سے پسینہ اور تھکاوٹ ہوتی ہے واجب ہے، ان کے علاوہ دوسروں کے لئے مستحب ہے، یہ قول ضعیف ہے۔

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الرضۃ فی ترک الغسل یوم الجمعة ح (۳۵۳) والنسائی ح (۱۳۷۹) والترمذی ح (۳۹۶)۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل یوم الجمعة ح (۳۳۵) والنسائی ح (۱۳۷۸) والترمذی ح (۳۹۷)۔

(۳) مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأصغرت فی الجمعة ح (۸۵۷)۔

صحیح بات ہے کہ غسل جمعہ سنت موکدہ ہے رہا آپ ﷺ کا یہ فرمان: (غسل الجمعة واجب علی کل محتلم) ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، تو واجب کا معنی اس حدیث میں موکدہ کے ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں: (العدة دین وحق علی واجب)

آپ ﷺ کا بعض حدیثوں میں صرف وضوء کا حکم دینا بھی غسل جمعہ کے موکدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر غسل جمعہ واجب ہوتا، تو آپ صرف وضوء کا حکم دینے پر اکتفاء نہ کرتے بلکہ غسل کا بھی حکم دیتے۔

اسی طرح آپ ﷺ کا بعض حدیثوں میں غسل کے ساتھ خوشبو، مسواک، اچھا کپڑا پہننا، اور مسجد میں سویرے جانے کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں سنت کے قبیل سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے (جو اس بات کی دلیل ہے کہ غسل بھی سنت ہے کیونکہ ان سب کا عطف ایک ہی حکم کا متقاضی ہے)۔

بہر حال ایک مسلمان کو اختلاف سے بچتے ہوئے بطور احتیاط جمعہ کے دن غسل کا کافی اہتمام کرنا چاہئے۔ (۱)

۲۔ احرام باندھنے کے لئے غسل کرنا:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے: (تجرد

(۱) مذکورہ اقتباس شیخ ابن باز کے کلام سے ماخوذ ہے دیکھئے: فتاویٰ اسلامیہ ۱/۱۰۱، اور بلوغ المرام میں آپ کی تعلق پر ح (۱۳۰، ۱۳۱) کے ضمن میں اور منشی الاخبار پر تعلق ح (۳۰۰، ۳۰۱) میں نیز آپ کے فتویٰ کی آڈیو کیسٹ بھی ہماری ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔

لاہلالہ واغتسل) احرام کے لئے (اپنے بدن سے سلعے ہوئے) کپڑے اتارے اور غسل کیا۔

۳۔ مکہ میں داخل ہونے کے لئے غسل کرنا:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی مکہ آتے، تو پہلے مقام ذی طوی میں صبح تک قیام کرتے، صبح کو غسل کرتے (پھر مکہ میں داخل ہوتے) اور کہتے کی اللہ کے رسول ﷺ ایسا کرتے تھے۔ (۲)

۴۔ ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا:

ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس یکے بعد دیگرے تشریف لائے (اور ہر ایک کے ساتھ ہم بستر ہوئے) اور ہر ایک کے پاس آپ نے غسل کیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایک ہی غسل کرتے تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے۔ (۳)

۵۔ میت کو غسل دینے والے کے لئے غسل کرنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من

(۱) الدارمی، کتاب المناک، باب الاغتسال فی الاحرام، ح (۱۸۰۱) والترمذی ح (۸۳۰) وابن خزیمہ ح (۲۵۹۵) وحاکم نیز حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، دیکھئے صحیح سنن ترمذی ۲۵۰۱، دارالاعتدال ح (۱۳۹)

(۲) بخاری، کتاب الحج، باب دخول مکہ خماراً اولیاً ح (۱۵۷۴) ومسلم ح (۱۳۵۹)

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب البوضو لمن اراد ان یعود ح (۲۱۹) وابن ماجہ ح (۲۹۰) اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، دیکھئے صحیح سنن ابوداؤد ح (۴۳۱۳) وادب المفرد ح (۳۲)

غسل المیت فلیغتسل (۱) جو میت کو غسل دے اسے خود بھی غسل کرنا چاہئے۔

۲: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ (کان رسول اللہ ﷺ یغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل المیت) (۲) اللہ کے رسول ﷺ چار چیزوں کی وجہ سے غسل کر لیا کرتے تھے: جنابت کے بعد، جمعہ کے لئے، سینگی لگوانے کے بعد، اور میت کو غسل دینے کے بعد۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب ہے لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحب ہے، جیسا کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے انہیں غسل دیا پھر وہ باہر آئیں اور وہاں موجود صحابہ جریں سے پوچھا، میں روزہ سے ہوں اور آج سخت ٹھنڈی بھی ہے، تو کیا مجھے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ (۳)

شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کے لئے غسل کرنا صحابہ کرام کے درمیان معروف تھا لیکن اسے وہ سنت جانتے تھے۔ (۴)

(۱) مسند امام احمد ۲/۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب فی الغسل من غسل میت ح (۳۱۶۱) والترمذی (۹۹۳) اور شیخ عبد القادر رَوَط نے اسے حسن کہا ہے، جامع الاصول ۷/۳۳۵ نیز دیکھئے ارداء الغلیل ح (۱۳۳)

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب فی الغسل من غسل میت ح (۳۱۶۱) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے بارے میں بلوغ المرام میں کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، شیخ ابن باز نے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ مسلم کی شرط پر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳) مؤطا مالک کتاب الجنائز، باب غسل میت ح (۳) اور شیخ عبد القادر رَوَط نے اسے حسن کہا ہے، دیکھئے جامع الاصول ۷/۳۳۸۔

(۴) دیکھئے منہجی الاخبار کی تلیق میں ح (۳۱۲) نیز دیکھئے فتاویٰ اللجنة الدائمة ۳۱۸/۵۔

۶۔ مشرک کو دفن کرنے والے کے لئے غسل کرنا:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئے اور کہا ابوطالب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ ﷺ نے کہا جا کر ان کی نعش مٹی میں چھپا دو! میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ مشرک تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا جا کر ان کی نعش مٹی میں چھپا دو، چنانچہ میں گیا اور ان کی نعش مٹی میں چھپا دی، پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا جا کے غسل کر لو۔ (۱)

۷۔ مستحاضہ عورت کے لئے ہر نماز کے لئے (۲) یا دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لئے غسل کرنا:

۱: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عہد رسالت میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں، تو آپ نے انہیں ہر نماز کے لئے غسل کرنے کا حکم دیا۔ (۳)
 ۲: حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا جب استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں، تو آپ ﷺ کے پاس آئیں اور اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب الرجل یوت لہ قرابۃ مشرک ح (۳۲۱۳) والسنائی ح (۲۰۰۴، ۱۹۰) اور شیخ عبدالقادر ارناؤط نے اسے جامع الاصول ص ۳۳، بی خزرج میں صحیح کہا ہے نیز دیکھئے المغنی ص ۱۱۱، ۱۱۲ اور صحیح السنائی ح (۱۸۳) شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے، اور جیسا کہ دیکھ رہے ہیں مذکورہ لوگوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے (۲) دیکھئے الشرح للمصنف الشیخ ابن عثیمین ص ۳۲۱۔

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب من روی عن المستحاضۃ تغسل لکل صلاۃ، ح (۲۹۲) اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح سنن

نے فرمایا: میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں ان میں سے کسی ایک پر بھی تم عمل کر لو تو دوسرے کے لئے کافی ہوگا، اور اگر تم دونوں کی طاقت رکھتی ہو تو تم اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہو، حدیث کے آخری حصہ میں آپ نے (دوسری بات کے بارے میں) فرمایا: اگر تم ایسا کر سکتی ہو کہ ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک غسل کرو اور دونوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر کے ایک غسل کرو اور دونوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور فجر کے لئے ایک علاحدہ غسل کر کے اس کو پڑھ لو، اور اگر تمہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھو اور یہی دوسری بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۱)

استحاضہ کے بیماری میں مبتلا عورت کے لئے صرف حیض کے خون کے اختتام پر ایک مرتبہ غسل کرنا واجب ہے، اسکے علاوہ ہر نماز کے وقت الگ غسل کرنا، یا دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لئے غسل کرنا، تو یہ مستحب ہے البتہ ہر نماز کے وقت وضوء کرنا واجب اور ضروری ہے۔ (۲) اسی کا ہمارے استاذ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے۔

۸۔ بیہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد غسل کرنا:

بیہوشی کے بعد افاقہ پانے والے شخص کے لئے غسل کرنا مستحب ہے۔

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب من قال اذا اقبلت الحیضۃ تدرع الصلاۃ، ح (۲۸۷) اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے دیکھیے صحیح سنن ابوداؤد، دار الواعظین، ۲۰۲۱ء۔

(۲) جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت بنت جحش سات سال تک استحاضہ کے بیماری میں مبتلا تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے انہیں غسل کرنے کے لئے کہا اور کہا کہ یہ ایک رگ ہے تو وہ ہر نماز کے لئے غسل کرتی تھیں، دیکھیے بخاری، کتاب الطہارۃ، باب عرق الاستحاضۃ، ح (۳۳۷) وضوء کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث استحاضہ کے باب میں آ رہی ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ کا مرض بڑھ گیا تو آپ ﷺ نے کہا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: (ضعو الی ماء افسی المخضب) میرے لئے ٹب میں پانی ڈالو! عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم نے ٹب میں پانی ڈال دیا، تو آپ ﷺ نے غسل فرمایا، پھر آپ ﷺ تکلیف کے باوجود اٹھنے لگے، تو آپ ﷺ پر پھر غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: (ضعو الی ماء افسی المخضب) میرے لئے ٹب میں پانی ڈالو، اسکے بعد آپ نے غسل کیا..... (۱) آپ ﷺ نے غشی سے افاقہ کے بعد تین بار غسل فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ غشی کے بعد غسل کرنا مستحب ہے (۲)

۹۔ سینگی لگوانے کے بعد غسل کرنا:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ (كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربع:

من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت) (۳)

(۱) بخاری کتاب الاذان، باب افترا جعل الامام ليوث بن (۶۸) و مسلم ح (۴۱۸)

(۲) دیکھئے نیل الاوطار للشوکانی ص ۶۶۶

(۳) سنن ابوداؤد کتاب الجنائز، باب فی غسل من غسل میت ح (۳۱۶۱) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے بارے میں بلوغ المرام میں کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، ابن ماجہ نے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ مسلم کی شرط پر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے

اللہ کے رسول ﷺ چار چیزوں کی وجہ سے غسل کر لیا کرتے تھے: جنابت کے بعد، جمعہ کے لئے، بیٹنگی لگوانے کے بعد، اور میت کو غسل دینے کے بعد۔

۱۰۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا:

کافر کے قبول اسلام کے بعد غسل کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔

۱: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے پاس

اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے گیا (فامرني أن اغتسل بماء وسدر) (۱) تو

آپ نے ہمیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا

علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل

کرنا سنت ہے (۲)

۱۱۔ عیدین کے لئے غسل کرنا:

علماء کرام کا کہنا ہے کہ عیدین کے لئے غسل کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے

رسول ﷺ سے مروی نہیں ہے (۳)

علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدین کے لئے غسل کے مستحب ہونے پر سب

(۱) سنن ابو داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الرجل یسلم فیومر بالغسل ح (۳۵۵)، والنسائی ح (۱۸۸) وترغیب ح (۶۰۵) سند امام

احمد ۶۰۵، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، دیکھئے ارواء الغلیل ۱۲۳۔

(۲) بلوغ المرام کی حدیث نمبر (۱۲۱) کی شرح کرتے ہوئے آپ سے میں نے یہ بات سنی ہے

(۳) کئی بار میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔

سے بہترین دلیل وہ روایت ہے، جسے امام بیہقی نے امام شافعی کی سند سے رازان سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے کہا اگر تم چاہو تو ہر دن غسل کر لیا کرو، تو اس آدمی نے کہا میرا مقصد ہے کہ ضروری غسل کیا ہے؟ آپ نے کہا: جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، عید الفطر کے دن۔ (۱)

سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی تین سنتیں ہیں: عید گاہ پیدل جانا، عید گاہ کے لئے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا، عید کے دن غسل کرنا۔ (۲)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ (۳)

۱۲۔ عرفہ کے دن غسل کرنا۔ جیسا کہ ابھی گزرا (۳)

(۱) دیکھئے ارواء الغلیل ۱/۷۷، اور اس کی سند موقوفاً علی رضی اللہ عنہ سے صحیح ہے۔

(۲) شیخ البانی نے کہا، اسے فریابی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے دیکھئے ارواء الغلیل ۱/۳۳۳۔

(۳) مؤطا امام مالک، کتاب العیدین، باب العمل فی غسل العیدین والنداء فیہما والاقامة ح (۲)۔

(۳) ابھی اس کی دلیل گزری ہے۔

تیمم

آٹھویں فصل

لغوی تعریف: لفظ تیمم کا معنی قصد و ارادہ کرنا ہے۔

شرعی تعریف: پانی نہ پانے والے کے لئے یا جس کے لئے پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، بطور عبادت رفع حدث کی نیت سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ (۱)

تیمم کا حکم: تیمم کی مشروعیت قرآن کریم، سنت نبی ﷺ اور اجماع امت سے ثابت ہے

اقرآن کریم: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليبسطركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ [المائدہ: ۶] اگر تم بیمار ہو، یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔

۲ حدیث: تیمم کی مشروعیت پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں۔

(۱) دیکھئے شرح المندۃ لابن تیمیہ ۳۱۱/۱، فتح الباری ۳۳۱/۱، المغنی لابن قدامہ ۳۱۰/۱، شرح الزرکنی ۳۲۲/۱، والشرح المجمع ۳۱۳/۱ (۲)

ارعران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو الگ تھلگ دیکھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا: تمہیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک رکھا؟ اس نے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ مجھے جنابت لاحق ہے، اور پانی میسر نہیں ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (علیک بالصعبید فانہ یکفیک) (۱) تم مٹی کو لازم پکڑو (یعنی تیمم کرلو) یہ تمہارے لئے کافی ہوگی۔

۳/ اجماع: فی الجملہ تیمم کے جواز پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ (۲)

بہر حال اسلام میں طہارت حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک پانی سے، دوسرا مٹی سے، مٹی سے تیمم کرنا اس شخص کے لئے ہے جسے پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہو لیکن اسے استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، رہا جسے پانی میسر ہو اور اسے استعمال کرنے کی طاقت بھی ہو تو ایسے شخص پر پانی کا استعمال کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جسے پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو لیکن اسے استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اس کے لئے تیمم پانی کے دستیاب یا اس کے استعمال پر قدرت ہونے تک پانی کے قائم مقام اور رافع حدث ہے، پانی جب دستیاب ہو جائے، یا اس کے استعمال پر قدرت ہو جائے تو جن امور کے لئے طہارت حاصل کرنا واجب ہے ان کے لئے پانی سے طہارت حاصل کرنا واجب ہے،

(۱) بخاری، کتاب التیمم، باب الصعبید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء، ج (۳۳۳) وسلم ج (۶۸۲)۔

(۲) دیکھئے المغنی لابن قدامہ ۳۱۰/۱ وشرح الزرعی ۳۲۳/۱ وشرح العمدة لابن تیمیہ ۳۱۱۔

اور جن امور کے لئے مستحب ہے ان کے لئے مستحب ہے۔

اسی طرح درست بات یہ ہے کہ جسے پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہو لیکن اسے استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ جب چاہے تب تیمم کر سکتا ہے اور اس کا تیمم پانی کے دستیاب ہونے تک یا کسی ناقض وضو یا غسل کو واجب کر دینے والی چیز کے پائے جانے تک باقی رہے گا۔ اور ایک ہی تیمم اگر رفع حدث اصغر اور اکبر دونوں کی نیت سے کرے تو دونوں کے لئے کافی ہوگا۔ (۱)

کب تیمم کرنا جائز ہے؟

وضو ٹوٹنے کے بعد یا غسل واجب ہونے کے بعد اگر مندرجہ ذیل تیمم کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے تو آدمی، چاہے حالت اقامت میں ہو یا حالت سفر میں ہر جگہ تیمم کرنا جائز ہے۔

۱۔ پانی نہ ملے

ار ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَلَمَّا تَجَدَّوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (۲) اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔

(۱) دیکھئے الشرح الممتع ۳/۳۱۱، ۳۱۲، فتاویٰ ابن حجر ۶/۳۶۰، ۳۶۱، اور اسی کو شیخ ابن باز نے بلوغ المرام کی تالیق ج ۶۳۶-۶۳۸ اور منہج السنن میں تالیق میں راجح قرار دیا ہے اور اسی کا ہمیشہ قوی دلیلیہ تھے نیز دیکھئے زاد المعاد ۲۰۰ و فتاویٰ اللجنة الدائمة ۳/۳۳۵۔

(۲) س۔ ج۔ مدہ آیت ۶

۲ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (علیک بالصعید فانہ یکفیک) (۱) تم منیٰ کو لازم پکڑو (یعنی تیمم کرلو) یہ تمہارے لئے کافی ہوگی۔

۲۔ حسب ضرورت پانی نہ ملے۔

اگر حسب ضرورت غسل یا وضوء کے لئے پانی نہ ملے، تو جتنا پانی میسر ہو اس سے جتنا اعضاء ہو سکے اسے دھل لے اور باقی اعضاء کے لئے تیمم کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (۲) جس قدر تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو!

اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (اذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (۳) جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو! بہر حال جہاں تک ہو سکے پانی استعمال کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ اگر پانی کم ہو تو اسے یکسر ترک کر کے محض تیمم پر اکتفا کر لے۔

۳۔ پانی کافی ٹھنڈا ہو:

اگر پانی کافی ٹھنڈا ہو جس کے استعمال کرنے سے نقصان لاحق ہو اور گرم کرنے کی

(۱) بخاری، کتاب التیمم، باب الصعید الطیب وضوء المسلم ینکفی من الماء، ج (۳۳۴)، مسلم ج (۶۸۲)۔

(۲) سورہ تھاجن آیت: ۱۶۔

(۳) بخاری، کتاب الاعتصام، باب الاقدار، مسلم ج (۲۸۸)، مسلم ج (۱۳۳)۔

کوئی صورت نہ ہو تو ایسی حالت میں پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔

عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ سلاسل کے موقعہ پر ایک مرتبہ سخت ٹھنڈک والی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، غسل کرنے کی صورت میں ہلاکت کا مجھے اندیشہ تھا، لہذا میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کی صبح کے نماز کی امامت کروائی، جب ہم غزوہ سے واپس آئے تو لوگوں نے اس واقعہ کا ذکر اللہ کے رسول ﷺ سے کیا، تو آپ نے فرمایا: (یا عمرو أصلیت بأصحابك وأنت جنب) اے عمر و کیا حالت جنابت میں تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے؟ اس وقت میں نے آپ سے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا، اور کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے اللہ رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكْرًا حَكِيمًا﴾ (۱) اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو! یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے (اس لئے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی) عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بات سن کر آپ ﷺ ہنس پڑے اور مزید کچھ نہ کہا (۲)

۳۔ بیماری یا زخم کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو:

اگر پانی کے استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے یا شفا یابی میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو تیمم کر سکتے

ہیں۔

(۱) سورہ نسا، آیت: ۲۹

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب اذا خاف الجب الہر و البعیم ح (۳۳۳) والدارقطنی، ح (۶۷۰) و حاکم و غیر ہم اور شیخ آرنو و اس کی سند کو جامع الاصول میں سنن ابوشیخ البہانی نے سنن ابوداؤد میں صحیح کہا ہے دیکھئے

جابر بن عبد اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کو زخم لگ گیا، اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو گئی اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ: کیا اس کے لئے تیمم کرنے کی رخصت ہے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، چنانچہ اس نے غسل کیا اور اس کی موت ہو گئی، یہ خبر جب اللہ کے رسول ﷺ کو ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: (قتلوا قتلہم اللہ الا سالوا اذا المر یعلموا انما شفاء العی السوال) ان لوگوں نے اسے ناحق قتل کر دیا اللہ انہیں قتل کرے، جب نہیں جانتے تھے تو پوچھے کیوں نہیں، کیونکہ نہ جاننے کا علاج پوچھنا ہے۔ (۱)

۵۔ پانی تک پہنچنے کے لئے دشمن کا خوف ہو:

پانی تک پہنچنے کے لئے دشمن یا چور یا آگ وغیرہ اگر حائل ہو، اور اسے اپنے جان و مال اور آبرو کا خطرہ ہو، یا اتنا بیمار ہو کہ حرکت نہ کر سکتا ہو، اور نہ ہی کوئی اسے پانی اٹھا کر دینے والا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اسے اس شخص کی طرح مانا جائے گا جس کے پاس پانی نہ ہو (اور اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہوگا)۔ (۲)

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الحجرج و الحجرج و الحجرج (۳۳۶) ابن ماجہ (۵۷۲) وابن حبان موارد (۲۰۱) وحاکم، اور شیخ آرزو ط نے اس کی سند کو جامع الاصول ۲۶۷۷ میں اور شیخ البانی نے تمام الحدیث میں ۱۳۱ میں حسن کہا ہے، شیخ ابن باز نے کہا کہ اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف ہیں لیکن موزہ پر سح کرنے والی حدیثوں سے ان کو تقویت ملتی ہے کیونکہ اگر موزوں پر سح کرنا آسانی کے قبیل سے ہے تو بدرجہ اولیٰ بیچوں پر سح کرنا آسانی کے لئے ہونا چاہئے، اور اگر کسی کو کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا ہے تو اس کے لئے تیمم شروع ہونا چاہئے۔

(۲) المغنی لابن قدامہ ۳۱۵-۳۱۶ وشرح المغنی لابن تیمیہ ۳۳۰

۶۔ پیاس اور موت کا خطرہ ہو

اگر پانی وضوء یا غسل میں استعمال کر لینے سے پیاس اور موت کا خطرہ ہو، تو پانی استعمال کرنے کے بجائے تیمم کرے گا، اور پانی کو پینے کے لئے محفوظ رکھے گا، ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میری یادداشت کے مطابق تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر مسافر کو اپنے پاس موجود پانی کو (وضوء یا غسل میں) استعمال کرنے سے پیاسا ہونے کا خطرہ محسوس ہو تو وہ پانی کو محفوظ رکھے اور تیمم کر لے۔ (۱)

خلاصہ کلام: اگر پانی استعمال کرنا مشکل ہو خواہ نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کرنا مشروع ہے (۲)

تیمم کرنے کا طریقہ

۱۔ نیت کرے!

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (انما الاعمال بالنیات) (۳) اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔

نیت کی جگہ دل ہے، زبان سے نیت نہیں کرنی چاہئے۔

(یعنی دل سے اس تیمم کے ذریعہ حدث خواہ اصغر ہو یا اکبر کے دور کرنے کی نیت کرے)

(۱) المغنی لابن قدامة ۳۳۳/۱ شرح معجمۃ لابن تیمیہ ۴۲۸/۱

(۲) الشرح المصحیح ۳۲۱/۱ شرح المعجمۃ لابن تیمیہ ۴۲۲/۱ وقاوی الجوزۃ الدائمۃ ۳۲۱/۵

(۳) اس حدیث کی ترجمہ گزر چکی ہے

۲۲۔ بسم اللہ کہے! (۱)

۳ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایک بار مارے، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کرے، پھر دونوں ہتھیلیوں سے ایک دوسرے کا مسح کرے انگلیوں کے کنارے سے لے کر کلائیوں کے جوڑوں تک، ہتھیلی کے قریب کلائی کے جوڑ کا بھی مسح کرے (۲)۔

نمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے ایک ضرورت کے لئے کہیں بھیجا، تو مجھے جنابت لاحق ہوگئی اور پانی نہ مل سکا، تو میں نے منیٰ میں چوپانے کی طرح لوٹ لیا (تیمم کے ارادہ سے) پھر (ضرورت سے فارغ ہو کر) میں اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا ماجرا کہہ سنایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (انما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا) تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا کر لینا چاہئے، پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایک بار مارا، اور ان کے اندر پھونکا پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھر لیا اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے (و ضرب بیدیه الأرض ففض يديه فمسح وجهه وكفيه) (۳) آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور انہیں

(۱) اس حدیث میں وارد حدیث کی توثیح کر رہی ہے

(۲) ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن کثیر، ابن ماجہ، ۳۵۲

(۳) ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن کثیر، ابن ماجہ، ۳۵۲، مسند (۳۱۸)

جھاڑا، پھر انہیں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔ (۱)

بہر حال اگر ہاتھ میں غبار زیادہ لگ جائے تو انہیں پھونک لے یا جھاڑ دے۔ (۲)

نواقض تیمم

۱۔ تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پاک مٹی سے تیمم کرنا درحقیقت پانی سے طہارت حاصل کرنے کا قائم مقام ہوتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے تیمم کی طہارت بھی ٹوٹ جائے گی جن سے پانی کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، چنانچہ اگر کسی نے حدث اصغر سے تیمم کیا ہے، پھر اس نے پیشاب کیا، یا دیگر کسی ناقض وضو کو کیا، تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ بدل کا حکم وہی ہوگا جو مبدل منہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حدث اکبر کے لئے تیمم کیا ہے، پھر اگر اسباب غسل میں سے کوئی سبب پایا جائے تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ (مثلاً احتلام و جنابت وغیرہ) (۳)۔

۲۔ اگر تیمم پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے، تو پانی ملنے پر تیمم ٹوٹ جائے گا۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (ان الصعب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير) پاکیزہ مٹی مسلمان کی طہارت ہے خواہ

(۱) مسلم، کتاب النجس، باب تیمم ح (۳۶۸)۔

(۲) اسی کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے۔

(۳) المغنی لابن قدامہ ۱/۳۰۶، الشرح المصحح ۳۲۱/۱۔

اسے دس برس تک پانی نہ ملے، جب پانی مل جائے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اسے اپنے جسم پر پہنچانا چاہئے، یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ (۱)

اور اگر اس نے تیمم کسی بیماری کی وجہ سے کیا ہے، تو پانی ملنے سے تیمم نہیں ٹوٹے گا بلکہ جب اسے پانی استعمال کرنے کی طاقت ہوگی، تو اس کا تیمم باطل ہوگا (۲)

۵۔ پانی اور مٹی دونوں نہ دستیاب ہو:

اگر کسی کو پانی اور مٹی دونوں نہ دستیاب ہو، یا دستیاب ہو، لیکن استعمال نہ کر سکتا ہو، تو ایسا شخص بلا طہارت نماز پڑھے گا، جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے باندھ دیا ہو اور اسے وضو اور تیمم دونوں کے کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لئے بلا طہارت نماز پڑھنی جائز ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک بار اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار منگنی لیا جو (ایک غزوہ کے موقعہ) پر غائب ہو گیا، تو آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں بھیجا، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو (پانی نہ ہونے کی وجہ سے) انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی (کیونکہ تیمم ابھی مشروع نہیں کیا گیا تھا) پھر واپسی پر اس کی شکایت آپ ﷺ سے کی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جب بھی تمہارے ساتھ کوئی

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الجب تخم ح (۳۳۳، ۳۳۲) ورنہ ح (۱۲۳) والنسائی ح (۳۲۱) وابن حبان موارد (۲۰۱)، شیخ البانی صحیح سنن ابوداؤد ۶/۱۷۷ میں صحیح کہا ہے، نیز دیکھئے ارواء الغلیل ح (۱۵۳)۔

(۲) الشرح للممتع للشیخ ابن شمیمین ۳۳۱/۱۔

معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری رستگاری کا راستہ نکال دیا، اور مسلمانوں کے لئے اسے باعث برکت بنا دیا۔ (۱)

بہر حال ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کرے، اور اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکے، تو تیمم کرے، اور اگر تیمم کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو بلا طہارت نماز پڑھ لے (۲)۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (۳) جس قدر تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو!

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ﴾ (۴) اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں بنائی ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (۵) جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔
۶۔ جس نے تیمم کر کے نماز پڑھی پھر وقت کے اندر پانی پا جائے تو کیا کرے؟

پانی کی عدم موجودگی میں یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر نماز سے فراغت کے بعد اسے پانی مل گیا، یا پانی استعمال کرنے کی استطاعت ہو گئی

(۱) بخاری، کتاب التعمیم، باب ازالمسجد، ماوالا تراہاج (۳۳۶) و مسلم ح (۳۶۷)۔

(۲) دیکھئے فتاویٰ اللجنة الدائمۃ ۳۳۶، ۵

(۳) سورہ تغابن آیت ۱۶

(۴) سورہ حج آیت ۷۸

(۵) بخاری، ح (۷۲۸۸) و مسلم ح (۱۳۷۷)۔

تو وہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائے گا، اگرچہ وقت باقی ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر کسی کو پانی اور مٹی دونوں دستیاب نہ ہو، یا استعمال کرنے کی استطاعت نہ ہو، پھر نماز سے فراغت کے بعد پانی اور مٹی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دستیاب ہو جائے، یا استعمال کرنے کی استطاعت ہو جائے، تو وہ بھی نماز دوبارہ نہیں لوٹائے گا اگرچہ وقت باقی ہی کیوں نہ ہو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی ایک سفر میں نکلے، پھر نماز کا وقت ہو گیا، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر انہیں وقت ہی میں پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی اور دوسرے نے نہیں پڑھی، پھر وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئے اور اپنا ماجرا آپ کو سنایا تو دوبارہ نماز نہ پڑھنے والے سے آپ ﷺ نے کہا: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) تم نے سنت کو پایا، اور تمہاری نماز تمہارے لئے کافی ہو گئی، اور جس نے نماز کو دوبارہ پڑھا تھا اس سے کہا (لك الاجر مرتین) تمہیں ثواب دو مرتبہ ملا۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جس نے پانی پانے کے بعد نماز نہیں لوٹائی اس نے سنت کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے حسب استطاعت ایک مرتبہ عبادت کر لی تھی، اور جس نے بطور اجتہاد وضو کے دوبارہ نماز ادا کی اسے دونوں نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن اصل مقصد سنت کے مطابق کرنا ہے (۲)

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی تیمم بعد ما یصل فی الوقت، (۳۳۸) والسنن، (۳۳۱) اور صحیح ابی یوسف، صحیح سنن ابی یوسف، اور صحیح سنن ابوداؤد، (۶۹۱) میں اسے صحیح کہا ہے

(۲) شیخ ابن باز نے یہ بات بلوغ الملام اور منہجی کی شرح کرتے ہوئے فرمائی ہے

نوویں فصل: حیض، نفاس، استحاضہ اور سلس البول کا بیان

حیض کی لغوی تعریف: لفظ حیض کا معنی بہنا و جاری ہونا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: (حاض الوادی) وادی بہنے لگی، اور یہ (حاضت المرأة تحيض) [عورت کے ماہواری کا خون جاری ہو گیا] کا مصدر ہے اسی طرح (محاض و محیض و تحیض) بھی مصدر ہیں، اور اس کی صفت (حائض) اور (حائضہ) ہے جس کا جمع (حوائض) اور (حیض) ہے (۱)

حیض کی شرعی تعریف: ایسا طبعی خون جو عورت کے رحم سے بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے۔

دم ماہواری کے خلقت کی حکمت: دختران حوا کے اندر اللہ رب العالمین دم ماہواری کو بچے کی غذائیت و پرورش کے لئے پیدا کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین بچہ کی تخلیق مرد و عورت کے پانی (مادہ منویہ) سے کرتا ہے، اور رحم مادر میں دم ماہواری سے اسے غذاء عطا فرماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو عموماً حیض نہیں آتا ہے، اور جب ولادت ہوتی ہے تو بچے کی غذاء سے باقی ماندہ خون (دم نفاس کے طور پر)

(۱) القاموس المحیط فصل الخاء باب الضاد

(۲) دیکھئے المغنی لابن قدامة ۳۸۶۱ و شرح الزرکشی ۳۰۵۱ شرح العمدة لابن تیمیہ ۳۵۷۱ و الروض المربع بحاشیہ ابن قاسم ۳۷۰۱

و الحیض والاستحاضہ لروایہ بنت احمد ص ۱۷-۳۶

خارج ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی حکمت و دانائی سے اسی دم حیض کو دوبارہ دودھ میں تحویل کر دیتا ہے، جو ماں کے چھاتی کے ذریعہ بچے کے لئے بطور غذا فراہم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی عموماً حیض نہیں آتا ہے، پھر جب عورت ایام رضاعت و حمل سے خالی ہوتی ہے، تو یہ خون اپنی جگہ جمع ہو کر عموماً ہر مہینہ میں چھ یا سات دن نکلتا ہے، حسب طبیعت کبھی کسی عورت کو اس سے زیادہ اور اس سے کم بھی ہوتا ہے، واللہ اعلم (۱)

ماہواری کے خون کا رنگ:

ماہواری کے خون کا رنگ عموماً مندرجہ ذیل چار طرح کا ہوتا ہے:

۱- سیاہ

جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ان کو استحاضہ کی بیماری لاحق تھی، تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فاذا كان الآخر فتوضى وصى فانما هو عرق) (۲) یقیناً حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، جب ایسا خون ہو تو تم نماز سے رک جاؤ، اور جب کوئی دوسرا (خون) ہو تم وضو اور نماز ادا کرو۔

(۱) دیکھئے المغنی لابن قدامہ ۳۸۶/۱ و شرح الزکشی ۳۰۵/۱ شرح العمدة لابن تیمیہ ۳۵۷/۱

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارة، باب من قال اذا اقبلت الخیضة تدع الصلاة ح (۳۸۶) والنسائی ح (۲۰۱) اور شیخ البانی نے اردو المغنی میں ۱۰۳۲/۱ سے صحیح کہا ہے۔

۲۔ سرخ:

کیونکہ سرخی خون کا طبعی رنگ ہے۔ (۱)

۳۔ زرد:

یہ زردی مائل پیپ کی طرح خارج ہوتا ہے۔ (۲)

۴۔ خاکی:

یہ سفید اور سیاہ کے درمیان سیاہی مائل گندہ پانی کی طرح ہوتا ہے۔ (۳)

علقمہ بن ابی علقمہ اپنی ماں۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں۔ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیہ میں کرسف (حیض کی روئی) رکھ کر بھیجتی تھیں جس میں ماہواری کے خون کی زردی لگی ہوتی تھی، وہ پوچھتی تھیں کی کیا اس حالت میں ہم نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو آپ ان سے کہتی تھیں کہ نماز پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ قصہ بیضاء (۴) نہ دیکھ لو یعنی ایام ماہواری سے بالکل پاک نہ ہو جاؤ (۵)

زردی اور خاکی رنگ کا خون ایام ماہواری، اور طہارت حاصل ہونے کے

(۱) دیکھئے: الخیض والنفاس والاستحاضہ لروایہ بنت احمس ۳۷-۳۸۔

(۲) دیکھئے: فتح الباری ۴۲۶/۱۔

(۳) دیکھئے: التعمیم الوسیط ۷۷۷ وفتا السنن لیسید سابق ۸۳۱۔

(۴) قصہ بیضاء کے معنی کی وضاحت آگے آ رہی ہے

(۵) مؤطا امام مالک، کتاب الخیض، باب طھر الخیض ح (۹۷) اور بخاری نے معلق روایت کیا، ہوداری ۲۱۴/۱، اور شیخ البانی نے ارواء

الغلیل ۲۱۸/۱ میں صحیح کہا ہے۔

بعد حیض نہیں شمار ہوگا اگرچہ بار بار ہی کیوں نہ آئے۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (کنز لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شینا) (۱) ہم زرد اور خاک کی رنگ کے خون کو طہارت و پاکیزگی کے بعد کچھ شمار نہیں کرتی تھیں۔

اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی کے بعد زرد اور خاک کی رنگ کا خون حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اور مفہوم سے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی سے پہلے اگر ایام حیض میں زرد اور خاک کی رنگ کا خون آتا ہے تو اسے حیض ہی مانا جائے گا یہی ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک راجح ہے۔

ماہواری کا وقت اور اس کی مدت

کس عمر میں عورت کو ماہواری آنی شروع ہوتی ہے؟ اور کتنے دنوں تک باقی رہتی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ (۲)

۱۔ ماہواری شروع ہونے کی عمر

صحیح احادیث میں ماہواری شروع ہونے کی عمر کی تحدید نہیں ہے، لیکن عموماً عورتوں کو بارہ سال سے لے کر پچاس سال کی عمر کے درمیان ماہواری آتی ہے۔

(۱) بخاری، کتاب حیض باب الصفرة والكدرۃ فی غیر ایام حیض ج (۳۲۶) سنن ابوداؤد ج (۳۰۷) اور شیخ ابانی نے زور، الغلیل (۲۱۹۰) میں سے صحیح ہے، قوس کے درمیان کی عبارت بخاری سے ۰۰۱ کی ہے۔

(۲) بیہقی، حیض، الفاظ ۱۱۰، استیذانہ، باب ۱، ص ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰

پندرہ دن ہے (۱)

۳ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نہ تو حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی دو حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت، کی کوئی حد ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ: کچھ علماء حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کی تحدید کے قائل ہیں لیکن اس کی تعیین میں ان کا اختلاف ہے، چنانچہ کچھ صرف اکثر مدت حیض کی تعیین کرتے ہیں اور اقل مدت حیض کی ان کے یہاں کوئی تعیین نہیں ہے، لیکن سب سے صحیح تیسرا قول ہے کہ اکثر مدت حیض اور اقل مدت حیض کی کوئی تعیین نہیں ہے، پھر دلائل سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ جتنے دن بھی عورت سے بطور عادت خون خارج ہوتا ہے، اسے حیض مانا جائے گا اگرچہ وہ ایک دن سے کم ہی کیوں نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ بطور عادت خون خارج ہوتا ہے، تو وہ بھی حیض مانا جائے گا اگرچہ وہ سترہ (۱۷) دن تک ہی کیوں نہ جاری رہے، البتہ اگر کسی عورت کو برابر خون نکلتا رہتا ہے وہ کبھی پاک ہی ہوتی نہیں ہے تو یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ حیض نہیں ہے (۲)

(۱) ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک اکثر مدت کے حیض کے سلسلہ میں راجح پندرہ دن ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔

(۲) مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۲۳۷/۱۹، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ پندرہ دن سے زیادہ حیض نہیں آتا ہے اس کے بعد آنے والا خون دم فاسد ہے۔

حیض کے احکام

حائضہ عورت کو کون کونسی چیزوں سے باز رہنا چاہئے؟

صحیح قول کے مطابق حائضہ عورت کو آٹھ چیزوں سے باز رہنا چاہئے:

۱۔ نماز

حیض کی وجہ سے نماز کا وجوب اور اس کا ادا کرنا دونوں ساقط ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہیں استحاضہ کی بیماری لاحق تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے اس کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا: (ذَلِكَ عَرَقٌ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا قَبِلْتَ الْحَيْضَةَ فِدْعَى الصَّلَاةِ وَاِذَا دَبَّرْتَ فَاغْتَسَلِي وَصَلِي) (۱) یہ ایک رگ ہے حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز ادا کرو۔

حائضہ عورت طہارت کے بعد حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء نہیں کرے

گی:

عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے (کننا نحیض علی عہد رسول اللہ

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (۲) کہ اللہ کے رسول ﷺ کے

(۱) بخاری، کتاب الحيض، باب اقبال الحيض وادبارہ ج (۲۲۰)؛ مسلم ج (۲۲۰)۔

(۲) بخاری، کتاب الحيض، باب لا تقضى المأثض الصلاة ج (۲۲۱)؛ مسلم ج (۲۲۰)۔

زمانے میں ہمیں جب حیض لاحق ہوتا تھا تو ہمیں روزہ کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا نہیں۔

البتہ جمہور جس میں امام مالک امام شافعی امام احمد وغیرہ شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر عورت غروب آفتاب سے پہلے عصر کے وقت میں پاک ہوتی ہے، تو اسے ظہر اور عصر دونوں کی نماز پڑھنی چاہئے اور اگر طلوع فجر سے پہلے عشاء کے وقت میں پاک ہوتی ہے تو اسے مغرب اور عشاء دونوں کی نماز پڑھنی چاہئے یہی قول عبدالرحمن بن عوف، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی مروی ہے (۱)، کیونکہ حالت عذر میں دوسری نماز کا وقت پہلی نماز کا بھی وقت ہوتا ہے (سوائے فجر کے) چنانچہ جب معذور شخص کو دوسری نماز کا وقت مل جائے تو اسے پہلی نماز بھی پڑھنی ضروری ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوائے حسن رحمہ اللہ کے اکثر تابعین کا یہی کہنا ہے۔ (۲)

اور اگر عورت طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کے بمقدار پاک ہوتی ہے تو اسے فجر کی نماز پڑھنی ضروری ہے کیونکہ اسے نماز کا وقت مل گیا ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من أدرك ركعتين الصبح قبل

(۱) اسنن الکبریٰ للبیہقی ۳۸۶، ۳۸۷، مذکورہ آثار کو محمد ابن تیمیہ نے منشی الاخبار میں سنن سعید بن منصور سے نقل کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاویٰ ۴۳۴، ۴۳۵ میں ان پر اعتقاد کیا ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسی کا فتویٰ دیتے تھے نیز دیکھئے المغنی ۴۲۴

(۲) المغنی ۴۶۲

أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعتين

العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (۱) (طلوع

آفتاب سے پہلے جس نے نماز فجر کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی اور

غروب آفتاب سے پہلے جس نے نماز عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔

اگر وقت نماز میں نماز پڑھنے سے پہلے عورت کو حیض آجائے، تو اسے اس نماز

کو طہارت کے بعد قضاء کرنی چاہئے کی نہیں اس سلسلے میں علماء کرام کے دو قول ہیں

پہلا قول: جمہور کے نزدیک قضاء کرنی واجب ہے (۲)، لیکن ان کے مابین اس بات

میں اختلاف ہے کہ عورت کو حالت طہارت میں کتنا وقت ملا ہو تب اس پر قضاء کرنی

واجب ہے درج میں اس سلسلے میں ان کے چند اقوال ذکر کئے جا رہے ہیں:

۱۔ عورت کو اگر حالت طہارت میں ایک تکبیر کے بمقدار وقت مل جائے تو اس پر قضاء

کرنی واجب ہے۔ (۳)

۲۔ عورت کو اگر حالت طہارت میں ایک رکعت کے بمقدار وقت مل جائے تو اس پر

قضاء کرنی واجب ہے۔

کیونکہ یہاں وقت ملنے سے نماز کا تعلق ہے اور نماز ایک رکعت سے کم میں نہیں ملتی

(۱) مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعتين الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ح (۶۰۸-۶۰۹) نیز دیکھئے

الاعتقادات الفقهية لابن تيمية ص ۳۴

(۲) حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ دیکھئے بدایۃ المجتہد فی تہذیب المتقصد ار ۳۷۷ والحیض والنفاس ص ۸۶۔

(۳) یہ قول شافعیہ، اور مالکیہ کا ہے، دیکھئے معنی لابن قدامہ ۲/۱۱۰ والحیض والنفاس ص ۲۸۶-۲۸۸۔

ہے جیسے جمعہ کی نماز. (۱)

۳۔ عورت کو اگر حالت طہارت میں اتنا وقت مل جائے جس میں نماز ادا کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ادا نہیں کی، تو ایسی صورت میں یہ نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی اور حصول طہارت کے بعد اس پر قضاء کرنی واجب ہے. (۲).

۴۔ عورت کو اگر حالت طہارت میں پانچ رکعت کے بمقدار وقت مل جائے تو اس پر قضاء کرنی واجب ہے. (۳)

۵۔ عورت کو اگر حالت طہارت میں وقت مل جائے لیکن ادائیگی نماز سے قبل (تاخیر کرنے کی وجہ سے) وقت اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہ مکمل نماز ادا نہ کر سکتی ہو، پھر اسے حیض آجائے تو ایسی صورت میں حصول طہارت کے بعد اس پر قضاء کرنی واجب ہے.

دوسرا قول: عورت پر مطلقاً فوت شدہ نماز کی قضاء واجب نہیں ہے. چاہے اسے حیض اول وقت میں آیا ہو، یا آخر وقت میں کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو محدود وقت میں فرض کیا ہے، جس کا اول ہے اور آخر ہے، اور اللہ کے رسول ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اول وقت میں بھی نماز ادا فرمائی ہے، اور آخر وقت میں بھی نماز

(۱) یقول امام شافعی کا ہے، دیکھئے معنی لابن قدامہ ۲/۳۷۴.

(۲) یقول حنابلہ اور شافعیہ کا ہے، دیکھئے معنی لابن قدامہ ۱/۲۴، ۳۷، والحیض والنفاس ص ۲۸۶-۲۸۹.

(۳) یقول امام مالک کی طرف منسوب ہے دیکھئے معنی لابن قدامہ ۲/۳۶۲، ۳۷.

(۴) یقول حنفیہ اور حنابلہ کا ہے، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اختیار ہے اور اسی کا فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ دیتے تھے دیکھئے معنی

لابن قدامہ ۲/۳۶، ۳۷، والاختیارات الغمیریہ لابن تیمیہ ص ۳۳ والحیض والنفاس ص ۲۸۶-۲۸۸.

ادا فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو آخر وقت تک موخر کرنے والا گنہ گار نہیں ہے (لہذا آخر وقت تک نماز کو موخر کرنے والی عورت نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا بنا بریں جب اسے ادائیگی نماز سے قبل حیض آ گیا، تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، لہذا اس پر اس نماز کی قضاء واجب نہیں) یہ قول احناف اور اہل ظاہر کا ہے۔ (۱)

راجح: مذکورہ اقوال میں ان شاء اللہ راجح قول یہ ہے کہ اگر عورت حالت طہارت میں وقت پانے کے باوجود ادائیگی نماز میں اس قدر تاخیر کرتی ہے کہ مکمل نماز ادا کرنے کے لئے وقت باقی نہ رہے، پھر ادائیگی نماز سے پہلے حیض آ جائے تو ایسی صورت میں یہ نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی، اور حصول طہارت کے بعد اس پر قضاء کرنی واجب ہے کیونکہ اس نے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی برتی ہے، اسی کا فتویٰ امام علامہ

(۱) دیکھئے الخیض والنفاس ص ۲۸۸، والنجلی لابن حزم ۲/۵۲۱، وبدلیۃ الجھد فی ضحایۃ المتخصد ۳/۱۳۱۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حالت طہارت میں ایک رکعت کے بعد اور وقت پاجاتی ہے تو اس پر اس وقت کی نماز قضا کرنی واجب ہے، اور اگر اس سے کم پاتی ہے تو نہیں، خواہ اول وقت میں پانے بایں طور کی غروب آفتاب کے بعد اسے ایک رکعت کے بعد اور وقت طے پھر اسے ماہواری آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں ماہواری سے طہارت کے بعد اسے مغرب کی نماز قضا کرنی واجب ہے، یا آخر وقت میں پانے بایں طور کی کوئی عورت طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کی ادائیگی کے بعد ارپاک ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل کرنے کے بعد اسے فجر کی نماز قضا کرنی ہوگی جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی) بخاری ح (۵۸۰) و مسلم ح (۶۰۷) اور جیسا کہ عائشہ و ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (جس نے صبح کے نماز کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے صبح کی نماز پالی جس نے عصر کے نماز کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی) مسلم ح (۴۲۳) اس حدیث کا مضمون ہوا کہ جس نے ایک رکعت سے کم پالی اسے نماز نہیں ملے گی، دیکھئے مجموع فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین ۳/۲۰۹، اور بھی امام شافعی کا بھی قول ہے دیکھئے معنی لابن قدامتہ ۳/۱۳۱ و بدلیۃ الجھد فی ضحایۃ المتخصد ۳/۱۳۱۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ دیتے تھے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ (۱)

۲۔ روزہ

عورت پر حالت حیض میں روزہ واجب نہیں ہے البتہ حصول طہارت کے بعد فوت شدہ روزوں کی وہ قضاء کرے گی۔

۱ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الیس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصر) (۲) کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔

۲ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے (کننا نحیض علی عهد رسول اللہ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (۳) کہ اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں ہمیں جب حیض لاحق ہوتا تھا تو ہمیں روزہ کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا نہیں۔

یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے عورتوں کو حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کے قضاء کا حکم نہیں دیا ہے کیونکہ عموماً انہیں ہر مہینہ چھ یا سات دن حیض آتا ہے جن میں

(۱) دیکھئے الاختیارات القطعیۃ لابن تیمیہ ص ۳۴۔

(۲) بخاری، کتاب الحيض، باب ترک الخافض الصوم ح (۳۰۳)۔

(۳) بخاری، ح (۳۲۱)؛ مسلح (۳۲۵)۔

فوت شدہ نمازوں کی تعداد ۳۰ یا ۳۵ ہوتی ہے، اور رکعت کی مجموعی تعداد ۱۰۲ یا ۱۱۹ ہے، بلاشبہ ہر ماہ ان نمازوں کا قضاء کرنا مشقت سے خالی نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حائضہ اور نفساء عورتوں کے ذمہ سے فوت شدہ نمازوں کے قضا کو واجب نہیں کیا ہے، رہا روزہ تو اس کا معاملہ آسان ہے، یہ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینہ میں پیش آتا ہے، اس کے قضا میں عموماً کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس لئے روزہ کا قضا واجب ہے نماز کا قضا واجب نہیں ہے۔

الحمد لله

۳۔ بیت اللہ کا طواف:

طہارت سے قبل حائضہ عورت کے لئے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔
۱۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الطواف بالبيت صلاة) بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے۔ (۱)

۲۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب انہیں دورانِ حج حیض آیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (افعلی ما یفعل الحجاج غیر أن لا تطوفی بالبيت حتی تطہری) (۲) وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں البتہ پاک

(۱) اس حدیث کی تخریج زریحی ہے

(۲) اس حدیث کی تخریج زریحی ہے

صاف ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔

البتہ اگر حیض طواف افاضہ کے بعد آئے، تو طواف وداع حائضہ عورت سے ساقط ہو جاتا ہے: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (امر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) (۱) لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری عہد (حج میں) بیت اللہ کے ساتھ ہو، البتہ حائضہ عورتوں سے اسے ہلکا کر دیا گیا ہے۔

۳۔ قرآن کا چھونا:

اس مسئلہ میں صحیح قول یہی ہے کہ حائضہ اور نساء لئے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے۔
۱۔ عمرو بن حزم، حکیم بن حزام، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا يمسه القرآن الا طاهر) (۲) قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔

البتہ علماء کی ایک جماعت حائضہ اور نساء کو قرآن پڑھنے سے بھی (بغیر چھوئے ہوئے) روکتی ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) (۳) حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔

(۱) مسلم، کتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوط من المكنت ح (۱۳۲۸)

(۲) اس حدیث کی ترجیح مگر رجلی سے

(۳) سنن ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی الجنب والحائض، انھما لا یقرأان القرآن ح (۱۳۱) وابن ماجہ (۵۹۵) شیخ البانی

نے اردو، انجیل ح (۱۹۲) میں اور شیخ ابن باز نے ہفتی الخباہر اور بلوغ الامم کی تعلق میں اسے ضعیف قرار دیا ہے

لیکن یہ حدیث ضعیف ہے قابل احتجاج نہیں، اس لئے اس مسئلہ میں صحیح بات یہی ہے کہ حائضہ اور نفساء (بغیر چھوئے ہوئے) قرآن پڑھ سکتی ہیں، رہا حائضہ اور نفساء کا جنبی پر قیاس کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنابت کی مدت مختصر ہوتی ہے، اور جنبی فوراً غسل کر سکتا ہے، اور اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے، رہی حائضہ اور نفساء تو ان کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، حیض اور نفاس کئی دنوں تک باقی رہتا ہے، اس دوران اگر یہ قرآن نہ پڑھے، تو جو کچھ اس نے قرآن یاد کیا ہے، اسے بھولنے کا امکان ہے، اسی طرح اگر یہ معلّم ہے تو اسے عورتوں اور بچیوں کو پڑھانے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، حائضہ اور نفساء کے زبانی قرآن پڑھنے کے جواز پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا دوران حج حیض آنے کا واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (افعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبيت حتی تطہری) (۱) وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں البتہ پاک صاف ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ نہیں کہا (قرآن نہ پڑھو) حالانکہ دوران حج قرآن کا پڑھنا افضل عبادت ہے اس سے معلوم ہوا کہ درست قول یہی ہے کہ

(۱) اس حدیث کی تخریج مندرجہ ذیل ہے

حائضہ اور نفساء کے لئے بغیر چھوئے ہوئے قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔ (۱)

۵۔ مسجد میں ٹھہرنا اور بیٹھنا:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (فانسی لا احل المسجد لحائض ولا جنب) (۲) بلاشبہ میں حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا۔

البتہ حائضہ اور نفساء مسجد کے اندر سے گزر سکتی ہیں بشرطیکہ اچھی طرح اپنی حفاظت کر لیں، تاکہ مسجد کو گندہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿الا عابری سبیل﴾ (۳) کا عموم (یعنی جنبی اور حائضہ سب کے لئے عام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حائضہ مسجد سے گزر سکتی ہیں)

۲۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ نے فرمایا: (ان حیضتک لیست فی یدک) (۴) تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

۳۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کا حالت حیض میں مسجد میں چٹائی رکھنے کا واقعہ (۵)۔

۴۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (حیضتک لیست فی

(۱) شیخ ابن باز نے اسی کو راجع قرار دیا ہے، دیکھئے فتاویٰ اسلامیہ ۱، ۲۳۹ اور بلوغ المرام کی شرح ح (۱۲۳، ۱۳۹، ۱۵۹) نیز دیکھئے صحیح ابن تیمیہ (۱/۱۱۱) ص ۶۹، والنحیض والنفاس ص ۲۲۵۔ ۲۷ جس میں بڑی مفید باتیں اس مسئلہ میں مذکور ہیں۔

(۲) اس حدیث کی تخریج گزرجلی ہے۔

(۳) سورہ نسا، آیت ۳۳۔ (۴) اس حدیث کی تخریج گزرجلی ہے۔

(۵) اس حدیث کی تخریج گزرجلی ہے۔

يدك) (۱) تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، وغیرہ احادیث اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔

۶۔ ہم بستری کرنا:

حائضہ اور نفساء سے ہم بستری کرنا حرام ہے:

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (۲) وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں (یعنی غسل کر لیں) تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (من اتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر

(۱) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۲) سورہ بقرہ، آیت ۲۲۲

بمّا أنزل علی محمد (۱) جس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کیا، یا اس کی سرین میں جماع کیا، یا کسی کا ہن کے پاس آیا، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کیا، تو اس نے محمد (ﷺ) کی لائی ہوئی شریعت کا کفر کیا۔

حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے بھی جماع کرنا جائز نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ولا تقربوہن حتی یطہرن﴾ (۲) ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں (یعنی غسل کر لیں)۔

اگر کوئی اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں ہم بستری کرتا ہے، تو اسے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک یا آدھے دینار کا صدقہ بھی کرنا چاہئے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے: (یتصدق بدینار أو نصف دینار) (۳) وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔

بنا بریں ایسے شخص کو صحیح قول کے مطابق ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے میں اختیار

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطب، باب فی العھد، ح (۳۹۰۳) و ترمذی ح (۱۳۵) ابن ماجہ ح (۶۳۹) اور شیخ البانی نے صحیح سنن ابوداؤد، ص ۳۹۱۔
صحیح سنن ترمذی، ص ۳۳۱، صحیح سنن ابن ماجہ، ص ۱۰۵، ارواہ الغلیل ح ۶، ۲۰۰، اور آداف الزفاف ص ۳۱ میں اسے صحیح کہا ہے۔
(۲) سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی التیان الخافض ح (۳۹۰۳) و ترمذی ح (۲۶۳) و ترمذی ح (۱۳۶) ابن ماجہ ح (۳۶۸، ۲۸۸) ابن ماجہ ح (۶۳۰) اور شیخ البانی نے ارواہ الغلیل ح ۱۹، ۱۹ میں اسے صحیح کہا ہے۔

ہے جو چاہے اپنی سہولت کے مطابق وہی کرے۔

اور ایک دینار ۴۷۲ سعودی جنیہ کے برابر ہوتا ہے اور آدھا دینار ۲۳۶ سعودی جنیہ کے برابر ہوتا ہے، بنا بریں اگر کوئی ۴۷۲ یا ۲۳۶ سعودی جنیہ توبہ و استغفار کے ساتھ صدقہ کر دے تو اس کے لئے کافی ہوگا۔ (۱)

اور معاصر وزن میں ایک دینار ۲۵۴ گرام (سونا) کا ہوتا ہے اور آدھا دینار ۱۲۷ گرام (سونا) کا ہوتا ہے۔ (۲)

بہر حال دونوں میں سے کوئی بھی صدقہ کر دے تو کافی ہوگا۔

۷۔ طلاق:

حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا خلاف سنت، بدعت اور حرام ہے۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَطُلِقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ (۳) ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو!

یعنی حیض کے بعد ایسی طہارت میں انہیں طلاق دو جس میں ہم بستری نہ کیا ہو۔

۲۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، جب

یہ خبر عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اللہ کے رسول ﷺ کو ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں

حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں اور پاک ہونے تک اپنے پاس رکھیں پھر جب

(۱) بی بی شامیہ باز کے نزدیک راجح ہے دیکھئے فتاویٰ اسلامیہ ۲۳۸/۱

(۲) الجھن و الغناس ص ۵۵۳

(۳) سورہ طلاق آیت ۱۱

اسے (دوبارہ) حیض آئے، اور پاک ہو تو اگر چاہیں، تو اسے اپنے پاس رکھیں اور اگر چاہیں تو دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دیں، یہی عورتوں کے طلاق دینے کی عدت ہے، جسے اللہ نے حکم دیا ہے اس میں عورتوں کو طلاق دیا جائے۔ (۱)

۸۔ عدت کا مہینہ سے حساب کرنا:

جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کے طلاق کی عدت کا شمار حیض سے کرنا واجب ہے مہینے کے حساب سے شمار کرنا جائز نہیں ہے:

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿والمطلقت یتربصن بأنفسهن ثلثة فروع﴾ (۲) طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں!

۲۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿واللائى یسنن من المحیض من نسائکم ان اردتہن فعدتہن ثلثة أشهر واللائى لم یحضن﴾ (۳) تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے ناامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو گیا ہو، تو ان کی عدت تین مہینہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ مذکورہ دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت کا شمار حیض سے ہوگا اور جن عورتوں کا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہو یا کم سنی کی

(۱) بخاری، کتاب الطلاق، باب قول اللہ (یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء) ج (۵۲۵۱) و مسلم ج (۱۳۷۱)۔

(۲) سورہ بقرہ آیت ۲۳۸۔

(۳) سورہ طلاق آیت ۳۔

وجہ سے جنہیں حیض ہی نہ آتا ہو ان کی عدت کا شمار مہینہ کے حساب سے ہوگا (یعنی تین مہینہ)۔

رہی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو مطلقاً، اس کی عدت چار مہینہ دس دن ہے، خواہ اسے حیض آتا ہو، یا کبرسنی یا صغرنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالذِّبْنَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرُونِ أَزْوَاجٍ يَبْصَنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (۱) تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے دس (دن) عدت میں رکھیں

یہ عدت وفات ہر عورت کے لئے ہے (۲) خواہ اسے حیض آتا ہو یا کبرسنی یا صغرنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو (مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو) البتہ اس سے حمل والی عورتیں مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان کی عدت وضع حمل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (۳) اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔

حیض کے منجملہ احکام میں سے یہ بھی ہے کہ حیض بلوغت کی علامت ہے اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے (۴)۔

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۳۴

(۲) (۳) شرح العمدۃ لابن تیمیہ ۴/۲۱۱

(۳) سورہ طلاق آیت ۴

(۴) شرح العمدۃ لابن تیمیہ ۴/۲۱۱

ب۔ حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟

جماع کے علاوہ حائضہ اور نفساء عورت کے ساتھ ہر طرح کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بوس و کنار کرنا جائز ہے۔

انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہودیوں کے یہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تھی، تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا، اور رہنا سہنا ترک کر دیتے تھے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں آپ ﷺ سے پوچھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هِيَ أَذَى.....﴾ (۱) نازل فرمائی اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: (اصنعوا كل شي الا النكاح) (۲) سوائے جماع کے (حائضہ اور نفساء) عورت سے تم ہر چیز کر سکتے ہو۔

۲۔ حائضہ عورت کے ساتھ لینے کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث (۳)

۳۔ حرام بن حکیم کے چچا نے اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ حالت حیض میں عورت سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تہبند کے اوپر سب کچھ حلال ہے (۴)

ہمارے شیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت سے جماع

(۱) سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

(۲) مسلم، کتاب الخیض، باب جواز غسل الخیض رأساً و جہاً و زجلہ و طہارۃ سورحاح (۳۰۲)۔

(۳) بخاری، کتاب الخیض، باب مباشرۃ الخیض ح (۳۰۲) و مسلم ح (۲۹۳)۔

(۴) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الذی ح (۲۱۲) اور شیخ البانی نے صحیح سنن ابوداؤد ۱۹۷۱ء میں اسے صحیح کہا ہے۔

کرنا حرام ہے (۱)، لیکن ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر عورت سے لطف اندوزی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اسی اجازت کو حدیث شریف میں، تہبند کے اوپر سب کچھ حلال ہے،، سے تعبیر کیا گیا ہے، رہا تہبند کے نیچے حصہ سے لطف اندوزی کرنا (جماع کے علاوہ) تو اس سلسلے میں صحیح یہی ہے کہ وہ بھی جائز ہے جیسا کہ آپ ﷺ (اصنعوا کل شیئ الا النکاح) سوائے جماع کے (حائضہ اور نساء) عورت سے تم ہر چیز کر سکتے ہو،، سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث میں صرف جماع کی ممانعت ہے۔

بنا بریں حائضہ عورت سے لطف اندوزی کی تین حالتیں ہیں:

پہلی حالت: جماع کرنا یہ بالا جماع حرام ہے، جب تک عورت پاک نہ ہو جائے۔
 دوسری حالت: تہبند کے اوپر سے لطف اندوزی کرنا یہ بالا جماع حلال ہے۔
 تیسری حالت: تہبند کے نیچے ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت سے لطف اندوزی کرنا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جماع کے علاوہ ہر طرح کی لطف اندوزی کرنا جائز ہے، ویسے احتیاطاً اس کا ترک کرنا بہتر ہے تاکہ حرام میں واقع ہونے سے محفوظ رہے۔ (۲)

میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اپنی بیویوں کے ساتھ

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاویٰ ۶۲۴/۲۱ میں حائضہ سے وہی کرنے کی حرمت پر تمام ائمہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔

(۲) آپ نے منشیٰ الاخبار کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے نیز دیکھیے معنی لابن قدامہ ۱/۳۱۲، الخیض والحامی ص ۳۲۱-۳۲۰۔

ہوں۔ (۱)

۴۔ حائضہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے:

عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ میری گود میں ٹیک لگا لیتے تھے، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اور پھر آپ ﷺ قرآن پڑھتے تھے۔ (۲)

۵۔ حائضہ بیوی کا شوہر کے سر کا دھونا اور اس میں کنگھی کرنا جائز ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ (۳)

۶۔ مذکورہ ممنوع عبادتوں کو چھوڑ کر حالت حیض میں عورت بقیہ سارے عبادات کو کر سکتی ہے: چنانچہ حائضہ عورت ہر طرح کی ماثور اور مسنون دعاؤں کو پڑھ سکتی ہے، حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھ سکتی ہے، البتہ طہارت سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب انہیں دوران حج حیض آیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (افعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبيت حتى تطہری) (۴) وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں البتہ پاک صاف ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔

(۱) بخاری، کتاب الخیض، باب شہود الخائفین والعیین وجموعۃ المسلمین وجزء من الصلحی ح (۳۲۳) مسلم ح (۸۹۰)۔

(۲) بخاری، کتاب الخیض، باب قرآن الرجل فی حجر امرأته وجمی الخائف ح (۲۹۷) مسلم ح (۳۰۱)۔

(۳) بخاری، کتاب الخیض، باب غسل الخائف رأسہ وجماعہ ورجلہ ح (۲۹۵) مسلم ح (۲۹۷)۔

(۴) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے

طہارت کی علامت

حیض سے طہارت کی دو علامت ہے:

پہلی علامت: قصہء بیضاء

قصہء بیضاء کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱۔ سفید پانی جو حیض کے بعد نکلتا ہے۔

۲۔ سفید دھاگے کے مانند ایک مادہ جو مکمل طور پر حیض کے ختم ہونے پر نکلتا ہے۔

جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ عورتوں سے کہتی تھیں کہ (لا تعجلن حتی

تربین القصة البيضاء) (۱) نماز پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ قصہء بیضاء نہ دیکھ لو۔

۳۔ اگر کرسف (وہ روئی جو عورت ایام حیض میں اپنی شرم گاہ میں رکھتی ہے) خشک نکلے اس

پر زردی وغیرہ کے اثرات نہ ہوں تو اسی کو قصہء بیضاء کہتے ہیں۔ (۲)

دوسری علامت: خشکی

حیض سے طہارت کی دوسری علامت یہ ہے کہ عورت حیض ختم ہونے کے بعد اپنی شرم گاہ

میں روئی یا کپڑا ازال کر نکالے اگر خشک نکلے یا اس پر قصہء بیضاء ہو یا صرف خشک ہو تو یہ

پاکی کی علامت ہے۔ (۳)

(۱) اس حدیث کی تخریج صحیح ہے۔

(۲) التبیان فی غریب الحدیث لابن تیمیہ ۱/۲۱۷ و الجمیع و المناس ۵۳۳۔

(۳) الجمیع و المناس لروایہ ص ۵۳۳۔ و منهاج المسلم ص ۱۸۹ و الشرح المصحح ۴۳۳۔

نفاس

الغوی تعریف: نفاس حرف نون پر زیر کے ساتھ یہ مصدر ہے جس کا معنی جننا، بچہ پیدا کرنا ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو ایسی عورت کو نفساء کہتے ہیں۔ (۱)

شرعی تعریف: ایسا خون جو ولادت کی وجہ سے ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے ایک دن یا دو دن یا تین دن عورت کی بچہ دانی سے روانی کے ساتھ نکلے یا ولادت کے بعد ایک مخصوص مدت تک نکلے۔

۲۔ حیض اور نفاس کے خون میں فرق:

نفاس اور حیض کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ درحقیقت نفاس کا خون حیض کا وہی خون ہوتا ہے، جو عورت کی بچہ دانی میں بچہ کی غذا سے باقی رہ جاتا ہے اور پھر بچہ کی ولادت کے وقت نکلتا ہے۔ (۳)

حیض و نفاس کے احکام میں فرق

نفاس اور حیض دونوں کے احکام یکساں ہیں یعنی جو چیزیں حائضہ کے لئے حرام ہیں وہی نفساء کے لئے بھی حرام ہیں، اور جو چیزیں حائضہ کے لئے حلال ہیں، وہی نفساء کے لئے بھی حلال ہیں، اسی طرح جو چیزیں حائضہ پر واجب ہیں وہی نفساء پر بھی واجب

(۱) لسان العرب والقاموس المحیط باب السین فصل النون۔

(۲) دیکھئے: الخیض والنفس والاستحاضہ راویہ بنت احمد ص ۴۳۶، ۴۶۷، والدماء الطبیعیہ ص ۱۱۱ الخیمین ص ۳۹

(۳) شرح العمدة لابن تیمیہ ۵۱۶۔

ہیں اور جو چیزیں حائضہ سے ساقط ہیں، وہی نفساء سے بھی ساقط ہیں، کیونکہ نفاس اور حیض درحقیقت دونوں ایک ہی خون ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، البتہ درج ذیل امور میں دونوں کے احکام مختلف ہیں:

۱۔ عدت

نفاس کو عدت میں نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ حالت نفاس میں طلاق کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو طلاق ولادت سے پہلے دی گئی ہو ایسی صورت میں ولادت کی وجہ سے عدت ختم ہو جائے گی، یا ولادت کے بعد دیا گئی ہو تو ایسی صورت میں نفاس کے ختم ہونے کے بعد حیض کے آنے کا انتظار کیا جائے گا اور جب حیض آنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت سے عورت تین حیض عدت گزارے گی۔

۲۔ مدت ایلاء

مدت حیض کو مدت ایلاء میں شمار کیا جائے گا جب کہ مدت نفاس کو مدت ایلاء میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(ایلاء کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے چار مہینہ یا اس سے زیادہ مدت تک جماع نہ کرنے کی قسم کھالے)

۳۔ بلوغت

بلوغت ہی پہچان حیض سے ہوتی ہے نفاس سے نہیں، کیونکہ درحقیقت نفاس آنے سے

پہلے عورت بالغ ہو جاتی ہے، بایں طور کہ نفاس سے پہلے منی کا انزال ہونا پھر حمل کا قرار پانا عورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔

۴۔ حیض کا خون مہینہ کے مخصوص ایام میں آتا ہے جبکہ نفاس کا خون بچہ کی ولادت کے وقت، یا ولادت سے پہلے ایک دن یا دو دن یا تین دن روانی سے نکلتا ہے۔ (۱)

۴۔ نفاس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت:

اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے البتہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالس دن ہے، اور اگر چالس دن سے پہلے عورت پاک ہو جاتی ہے، تو اسے غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہئے

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (كانت النساء في عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً) (۲) اللہ کے رسول ﷺ کے زمانہ میں نفاس والی عورتیں چالس دن تک نفاس میں گزارتی تھیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم کے نزدیک نفاس والی عورتیں چالس دن تک نماز ادا نہیں کریں گی الا یہ

(۱) دیکھئے الخیض والنفس، ۱۱۱ استفاضہ لراویہ بنت احمد ص ۴۳۷، ۴۳۸، والدہ ما، الطبیعیہ للشیخ ابن العثیمین ص ۴۰۰ والشرح لمصنف

۴۵۰-۴۵۳-۴۵۴، شیخ کے نزدیک نفاس والی عورت کو طلاق حرام نہیں ہے۔ ۴۵۲/۱

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی وقت النفاس، ج (۳۱۱) وترمذی ج (۱۳۹) وابن ماجہ ج (۶۲۸) اور شیخ البانی نے صحیح سنن

ابوداؤد، ۶۲۸ اور داروالمغلیل ۲۲۲/۱-۲۲۶/۱ میں اسے حسن کہا ہے

کہ وہ چالس دن سے پہلے پاک ہو جائیں تو انہیں غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینی چاہئے۔ اور اگر چالس دن کے بعد تک بھی خون جاری رہتا ہے تو اکثر علماء اور فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ترک کرنی چاہئے (۱) کیونکہ وہ مستحاضہ کے حکم میں ہوگی جس کا ذکر آگے آرہا ہے، یہی قول ان شاء اللہ راجح اور بہتر ہے۔

استحاضہ

الرغوی تعریف: استحاضہ حیض سے باب استفعال کا مصدر ہے، جو حیض کے ماسوا ایک خون کو کہتے ہیں۔ (۲)

شرعی تعریف: استحاضہ عورت کی شرمگاہ سے اس مسلسل بہنے والے خون کو کہتے ہیں جو بچہ دانی سے نہ نکلے، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے، یارگ عاذل جو بچہ دانی کے نیچے ہوتی ہے کی خرابی کی وجہ سے ایام حیض کے علاوہ دنوں میں خارج ہو۔ (۳)

حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق:

حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کرنے کی کئی علامتیں ہیں جسے عموماً اکثر عورتیں

(۱) شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسی کا فتویٰ دیا کرتے تھے دیکھئے فتاویٰ دائمی کمیٹی ۳۱۵/۵۔ اور فتاویٰ اسلامیہ ۳۳۸/۱۔

(۲) المصباح الحیر ۱۵۹/۱۔

(۳) دیکھئے الخیض والنفاس والاستحاضہ لراویہ بنت احمد ص ۳۸۳، ۳۸۸ والدماء الطبیعیہ للشیخ ابن العثیمین۔

جانتی ہیں ذیل میں چند علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں:

پہلی علامت: حیض کا خون کالا گھاڑا، اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون پتلا سرخ ہوتا ہے، اس میں کوئی بو نہیں ہوتی ہے۔

دوسری علامت: حیض کا خون بچہ دانی کے آخری حصہ سے نکلتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون بچہ دانی کے شروع میں موجود رگ عاذل سے نکلتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون بچہ دانی کے بجائے ایک رگ سے نکلتا ہے۔

تیسری علامت: حیض کا خون ایک طبعی خون ہے جو حالت صحت میں مخصوص ایام میں نکلتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون بیماری کا خون ہے جس کے خارج ہونے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ (۱)

استحاضہ میں مبتلا عورت کی تین حالت ہے

پہلی حالت: استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے اسے حیض معلوم مدت میں آتا رہا ہو، ایسی صورت میں یہ عورت ہر مہینہ اسی معلوم مدت کو حیض مانے گی، اور اس مدت میں اس پر حیض کے سارے احکام لاگو ہونگے، اور اس مدت کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ مانے گی، اور اس پر اس وقت استحاضہ کے سارے احکام لاگو ہونگے۔

(۱) دیکھئے الحیض والنفاس والاستحاضہ لراویہ بنت احمد ص ۷۸

اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فاطمہ بنت ابی حیش کے متعلق وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عہد رسالت میں ایک عورت کا خون بہتا تھا (یعنی استحاضہ ہو گیا تھا) تو انہوں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چاہئے کہ اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے اسے مہینہ میں کتنا دن حیض آتا تھا، اسے شمار کر لے اور اس کے بعد اتنے دن ہر مہینہ میں نماز چھوڑ دیا کرے، پھر جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کرے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے (یعنی خون کے منتشر ہونے سے تحفظ کا انتظام کر لے) اور نماز پڑھے (۱)

دوسری دلیل۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت ابی حیش اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول ﷺ میں ایک ایسی عورت ہوں جو کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتی ہوں تو کیا ایسی حالت میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، جب تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کی مدت ختم ہو جائے، تو اپنے بدن سے خون دھولو اور نماز پڑھو اور پھر تم ہر نماز کے لئے وضوء کرو یہاں تک کہ دوبارہ حیض کا وقت آجائے. (۲)

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی المرأة استحاض ومن قال مدح الصلاة فی مدة الايام اتی کانت تحیض (۲۷۴) و سنن ابی ح (۲۰۸) وابن ماجہ (۲۶۳) اور شیخ البانی نے صحیح سنن ابوداؤد ۵۲۱ میں صحیح کہا ہے.

(۲) بخاری، کتاب الحيض، باب غسل الدم (۲۲۸) و مسلم ح (۳۳۳)

تیسری دلیل رعائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول ﷺ سے (استحاضہ کے متعلق) دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اتنے دنوں تک انتظار کرو جتنے دنوں تک پہلے تمہارا حیض آتا تھا، پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ (۱)

بنا بریں جس مستحاضہ عورت کی پہلے سے حیض کی کوئی عادت ہے، وہ حسب عادت ہر مہینہ اتنے دنوں تک انتظار کرے، اور جب عادت کی مدت ختم ہو جائے تو حسب دستور غسل کرے، اور نماز پڑھنی شروع کر دے، ہر نماز کے وقت وضو کرے، اور اس وقت میں جس قدر فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرنی چاہے کر سکتی ہے، تا آنکہ دوسری نماز کا وقت نہ آجائے (دوسری نماز کا وقت آنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اسے دوسری نماز کے لئے از سرے نو وضو کرنی پڑے گی)۔

دوسری حالت: استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے حیض کی کوئی معلوم عادت نہ ہو لیکن وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کر سکتی ہے، بنا بریں اگر خون کالا ہے یا گاڑھا ہے یا بدبودار ہے تو وہ حیض ہوگا اور حیض کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے، اور اگر مذکورہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اور اس پر استحاضہ کے سارے احکام لاگو ہوں گے، اس کی دلیل، فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ ان کو استحاضہ کی بیماری لاحق تھی

(۱) مسلم، کتاب الحيض، باب استحاضة وغسلها وصلاتها ح (۲۳۳)۔

تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (ان دم الحیض دم أسود يعرف فاذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فاذا كان الآخر فتوضى وصلى فانما هو عرق) یقیناً حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، جب ایسا خون ہو تو تم نماز سے رک جاؤ، اور جب کوئی دوسرا (خون) ہو تم وضو کرو اور نماز ادا کرو! (۱)

تیسری حالت: مستحاضہ عورت کو نہ تو پہلے سے حیض کی عادت معلوم ہو، اور نہ ہی اسے حیض اور استحاضہ کے خون میں صحیح تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، بایں طور کہ اس کی بلوغت ہی استحاضہ کی حالت میں ہی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ حیض اور استحاضہ میں تمیز نہ کر پاتی ہو یا پہلے اسے حیض کی عادت معلوم رہی ہو پھر بھول گئی ہو یا اسے عادت یا تمیز کی تعیین میں تردد ہو تو ایسی حالت میں یہ عورت عام عورتوں کی عادت کے مطابق ہر مہینہ میں چھ یا سات دن حیض کا شمار کرے گی ان دنوں مدتوں میں سے جو بھی اس کی قریبی رشتہ دار عورتیں جیسے ماں، بہن خالہ پھوپھی کی عادت کے موافق ہوگا اس پر عمل کرے گی، ان ایام کا شمار اسی دن سے کرے گی جس دن پہلی بار خون دیکھے گی، اس مدت کے بعد بقیہ ایام کو استحاضہ شمار کرے گی اس کی دلیل حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا: (انما هي ذكضة

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب من قال اذا اقبلت الحيض تدع الصلاة ح (۲۸۶) ولسانی ح (۲۱۵، ۲۱۶)، اور شیخ الہانی نے صحیح سنن ابوداؤد، ص ۵۵۵، صحیح سنن نسائی ح ۲۵۰، اور داروالمغلیل ص ۲۲۳ میں اسے حسن کہا ہے۔

من ركضات الشيطان فتحيضى ستة ايام او سبعة ايام رضى
 علم الله ثم اغتسلى) یہ تو شیطان کا ایک کچوکا ہے، لہذا تم چھ یا
 سات دن حیض کا شمار کرو پھر نہالو، جب تم پاک و صاف ہو جاؤ، تو پھر ۲۳ یا ۲۴ دن
 نماز پڑھو اور روزہ رکھو بیشک یہ تمہارے لئے کافی ہوگا، اور ہر ماہ اسی طرح کیا کرو
 جیسا کہ حیض والی خواتین اپنے پاکی اور طہارت والے ایام میں کرتی ہیں۔ (۱)

خلاصہ کلام عادت والی عورت اپنے عادت پر عمل کرے گی اور حیض و استحاضہ کے
 خون کے درمیان تمیز کرنے والی اپنی تمیز کے مطابق عمل کرے گی، اور جسے نہ عادت
 ہو اور نہ ہی حیض و استحاضہ کے خون کے درمیان تمیز کرنیکی صلاحیت ہو، ایسی عورت
 حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سابقہ تفصیل کے ساتھ چھ
 یا سات دن حیض کا شمار کرے گی، اور بقیہ ایام میں غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گی
 (۲)۔

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب من قال اذا قبلت الحيض تدع الصلاة ح (۲۸۷) وترمذی، ح (۱۲۸) وابن ماجہ ح (۶۲۷)
 و نسائی ح (۲۱۶، ۲۱۵) اور شیخ البانی نے ارادہ الغلیل ۲۰۲ ح (۱۸۸) صحیح سنن ابوداؤد ح (۲۶۷)، صحیح سنن ترمذی ح (۱۱۰) اور صحیح سنن
 ابن ماجہ ح (۵۱۰) میں اسے حسن کہا ہے

(۲) دیکھئے الخیض والنفس والاستحاضہ، راویہ بنت احمد ص ۳۸۹، ۵۳۳ والدماء الطبیعیۃ للشیخ ابن العثیمین ومارالسبیل ۱/۵۹۔

استحاضہ کے احکام

مستحاضہ عورت پاک عورت کی طرح ہے، وہ نماز، روزہ، اعتکاف، قرآن پاک چھونا پڑھنا مسجد میں ٹھہرنا، پاک عورتوں کی طرح سب کچھ کر سکتی ہے، اس پر وہ ساری عبادتیں واجب ہیں جو پاک عورتوں پر واجب ہیں، اسی طرح وہ پاک عورتوں کی طرح اپنے شوہر کے لئے حلال ہے (۱)، البتہ مندرجہ ذیل امور میں وہ پاک عورتوں سے مختلف ہے:

۱۔ انقطاع حیض کے بعد ایک مرتبہ صرف مستحاضہ عورت پر غسل کرنا واجب ہے جیسا کہ حمزہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے رسول ﷺ سے (استحاضہ کے متعلق) دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (امکنی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی و صلی) (۱)، تم اتنے دنوں تک رکی رہو جتنے دنوں تک تمہیں تمہارا حیض روکے رکھے پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔
پھر ہر نماز کے وقت کے لئے اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔

۲۔ مستحاضہ پر ہر نماز کے وقت وضو کرنا واجب ہے:

جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: (ثم توضئی لکل صلاة حتی یجنى ذلك الوقت) (۲)

(۱) مسلم کتاب الحيض، باب استحاضة و غسلها و ملامتها ح (۶۶، ۳۳۳)۔

(۲) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

پھر تم ہر نماز کے لئے وضوء کرو یہاں تک کہ دوبارہ اس کا وقت آجائے۔

بنا بریں اوقات مقررہ پر پڑھی جانے والی نماز کے لئے مستحاضہ کو وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کرنی چاہئے بلکہ جب وقت داخل ہو جائے تو وضو کرے، اور اس وضو سے جب تک استحاضہ کے خون کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض وضو نہ پایا جائے، وہ ہر طرح کی فرض نفل جو بھی نماز ادا کرنی چاہے ادا کر سکتی ہے، تا آنکہ اس نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

۳۔ مستحاضہ وضو کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھل لے، اور خون کے پھیلنے سے تحفظ کے لئے اس جگہ روئی وغیرہ رکھ لے، یا اس پر پٹی باندھ لے جیسا کہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے کہا: (میں تمہیں کرسف (روئی) رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں، اس سے تمہارا خون رک جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو آپ ﷺ نے کہا کپڑا رکھ لو تو وہ کہنے لگیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ تو بہت تیز بہتا ہے تو آپ ﷺ نے کہا کہ لنگوٹ باندھ لو (۱)۔

اور جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: (فلتغتسل ثم لتستنفر بنوب ثم لتصل) تم غسل کرو پھر

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب من قال اذا اقبلت اقبض تدع الصلاة ح (۲۸۷) وترمذی، ح (۱۲۸) وابن ماجہ ح (۲۲۷)

ملاحظہ ہو سنن ابوداؤد، ص ۵۲، صحیح سنن ابن ماجہ، ۱۰۳، ارواء الغلیل ح (۱۸۸)۔

(۳) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

کیڑے کا لنگوٹ باندھ لو پھر تم نماز پڑھو۔

حسب استطاعت خون سے تحفظ کے باوجود بھی اگر خون نکلتا رہتا ہے، تو اس سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حیش رضی اللہ عنہا کی حدیث کی بعض روایتوں میں ہے، کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: (و توضئنی لكل صلاة وان قطر الدم علی الحصیر) (۱) اور تم ہر نماز کے لئے وضو کرو اور نماز پڑھو اگرچہ خون چٹائی پر ہی کیوں نہ ٹپکتا رہے۔

۴۔ مستحاضہ عورت کے لئے جمع صوری جائز ہے:

جیسا کہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: (اگر تجھ میں یہ ہمت ہے کہ، ظہر کو موخر اور عصر کو مقدم کر کے غسل کرے اور ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لے، اور مغرب کو موخر اور عشاء کو مقدم کر کے، غسل کرے اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے لئے الگ غسل کرے تو ایسا تو کر سکتی ہے) (۲)

اور اگر مستحاضہ عورت نماز ظہر اور عصر کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں

پڑھ لیتی ہے اور مغرب و عشاء کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں

(۱) سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، دستبہاب ماجہ، فی المستحاضۃ البی قد عدت ایام اقرانہا قبل ان تستمر بہا الدم ح (۶۲۳) صحیح سنن ابن ماجہ ۱۰۳/۱ نیز صحیح بخاری میں ہے احکام المؤمنین میں سے ایک بیوی نماز پڑھتی تھیں اور ان کے نیچے شتری ہوتی تھی جس میں خون

اور زردی برتی تھی دیکھئے بخاری مع فتح ۱۱/۱ ح (۳۱۰)

(۲) اس حدیث کی ترجمہ نگار نے لکھی ہے۔

پڑھ لیتی ہے، تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے، کیونکہ وہ مریض کے حکم میں ہے
(۱) واللہ مستعان. (۲)

دوران حمل نکلنے والا خون استحاضہ ہوگا یا حیض

عموماً حالت حمل میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کو حالت حمل میں خون آتا ہے، تو اس خون کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اسے حیض کا خون مانا جائے گا یا استحاضہ کا، اس سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کا کہنا کہ یہ فاسد خون ہے جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبری بحیضہ) (۳) حمل والی (قیدی عورت) سے ولادت سے قبل جماع نہ کیا جائے اور بغیر حمل والی (قیدی عورت) سے جب تک کہ ایک حیض آنے سے استبراء رحم نہ کر لیا جائے جماع نہ کیا جائے۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی جمہور تابعین کا قول ہے، اور جن تابعین نے کہا ہے کہ یہ حیض ہے، ان کی اس سے مراد وہ خون ہے جو ولادت سے ایک دن یا دو دن یا تین دن قبل روانی کے ساتھ نکلتا ہے، اور اسے نفاس کہتے ہیں (۴)

(۱) شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسی کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔

(۲) ملاحظہ ہو، الخیض والنفس والاستحاضہ لراویہ بنت احمد ص ۵۳۵، ۵۳۸ نیز دیکھئے معنی لابن قدامہ ص ۳۹۱۔

(۳) سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب فی وطء المسایح (۲۱۵۷) وداری، ج (۲۳۰۰) اور شیخ البہانی نے ارواء الغلیل ج (۱۸۸) سے صحیح قرار دیا ہے۔

(۴) دیکھئے معنی لابن قدامہ ص ۳۳۳۔

کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حالت حمل میں نکلنے والا خون حیض کا خون ہے کیونکہ اصل یہی ہے۔ ہمارے شیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک پہلا قول راجح ہے یعنی حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا ہے اور حالت حمل میں نکلنے والے خون استحاضہ کی طرح فاسد خون ہوتا ہے۔ (۱)

سلس البول کے احکام

جو شخص سلس البول کے مرض میں مبتلا ہو یعنی اس کا پیشاب مسلسل نکلتا رہتا ہو کبھی بند نہ ہوتا ہو ایسے شخص کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بدن، اور کپڑے پر جہاں بھی پیشاب لگا ہو صاف کر کے شرمگاہ کو دھلنا چاہئے، اور پھر پیشاب نکلنے کی جگہ پر کوئی چیز باندھ لے تاکہ پیشاب دھلنے کے بعد دوبارہ بدن، کپڑا، پر نہ لگنے پائے اور نہ ہی جائے نماز اور مسجد گندی ہونے پائے۔ اس کے بعد وضو کرے۔ یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جسے مسلسل ہوا نکلنے کی بیماری لاحق ہے۔

اسی طرح جسے برابر مذی خارج ہوتی رہتی ہے وہ بھی اپنے اپنی شرمگاہ اور فوطوں کو دھلے اور جہاں کپڑے پر مذی لگنے کا امکان ہو وہاں پانی سے چھینا مار لے۔

مذکورہ تینوں طرح کے مریضوں کو بعینہ مستحاضہ کی طرح نماز کا وقت داخل ہونے

کے بعد وضو کرنا چاہئے، پھر وقت کے اندر وہ ہر طرح کا فرض، نفل جو بھی نماز

(۱) ملاحظہ ہوتا ہے دائمی کمیٹی ۳۹۲/۵ شرح العمدة لابن تیمیہ ۵۱۴/۵ شرح الزرکشی ۳۵۰ نیز دیکھئے فائدہ کے لئے الدرر الطیعیۃ للشیخ

ادا کرنی چاہیں ادا کر سکتے ہیں، تا آنکہ اس نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، اور اگر وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

سلس البول کے مریض کو چاہئے کہ نماز کے لئے ایک پاک کپڑا الگ سے رکھے کیونکہ پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا کرنے میں مشقت ہو تو اسی کپڑے میں نماز پڑھے (ان شاء اللہ) یہ اس کے لئے معاف ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (۱) جس قدر تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو!

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (۲) اور تم پر اللہ نے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَرِشًا﴾ (۳) اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (۴) اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں۔

(۱) سورہ تعلقان آیت ۱۶

(۲) سورہ حج آیت ۷۸

(۳) سورہ بقرہ آیت ۲۸۶

(۴) سورہ بقرہ آیت ۱۸۵

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (۱) جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔

نماز جمعہ کے لئے مذکورہ مریضوں کو اتنا وقت پہلے وضو کرنا چاہئے جس میں یہ آسانی سے خطبہ جمعہ سن سکیں اور نماز ادا کر سکیں۔ (۲)

ایسے لوگ ہمیشہ اللہ سے شفا کی دعا کریں، اور جائز علاج کی تلاش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اے اللہ! ہمیں اور ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو ہر برائی سے عافیت عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ رکھ! آمین

مترجم۔ ابو سعد محمد عرفان محمد عمر

بوقت صبح ۱۰/۵۲

۴ رمضان المبارک ۱۴۳۰ھ



ظهور المسلم

في ضوء الكتاب والسنة
مفهوم · فضائل · آداب · أحكام
تأليف

فضيلة الشيخ الدكتور/سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ترجمه الى اللغة الأوردية

محمد عرفان محمد عمر المدني

راجعه

أبو أسامه نياز أحمد أنصاري ☆ عبد الباسط عبد العزيز المدني
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السليل

هاتف ٠١٧٨٢٠٥٤٠ فاكس ٠١٧٨٢٥٦٠٦

طبع على نفقة مؤسسة الشيخ / سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية